

کیف آئتم را کنل این مریعہ فیکد و امام مکم منکم متنق علیه

# اسلام میں امام محدثی (رضی اللہ عنہ) کا صور

امام محدثی متفقہ استادت اباعث کا حقیقتہ نہ انساب ایرت خلیفہ علیات  
ظہور محدثی شیخین میں امام محدثی متفقہ حافظہ دوستی تسلیم کریں  
معکرین و مدعیان درودیت اکابر شمارکیں آگے و فنا کیں

زادہ تاتا

حضرت مولانا پروفسر محمد یوسف خان حنفیہ قدر  
استاذ احمدیہ شاہزادہ اش فیہ بھو

مؤلف

مولانا فاضل محمد مظہف رقبال  
قابل قاضی جامعہ داشتہ

يَكُونُ فِي أَخْرِيَّ مَقْتَنِيَّ خَلْقَهُ يَحْشِي الْمَالَ حِيثَا وَلَا يَعْدُهُ، عَدَا مُسْرِفَهُ  
كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَّلْتُ إِلَيْكُمْ مَرِيحَ فِينَكُمْ وَأَمَّا مُكْمَلُهُ مِنْكُمْ مَتَعْلِمُهُ

# اسلام میں امام محمدی (رضی عنہ) کا تصویر

امام محمدی متعلقہ اہلسنت اور بحثت کا عقیدہ نام و نسب سیرت و علمیہ علامات  
ظہرو محدثی، صحیفین میں امام محمدی متعلقہ حدیث و اعلان تناظر میں،  
منکرین و دعیان مدعیت اکابر علماء کی آراء و فتاویٰ

از افتادہ  
حضرت مولانا پدر شیر محمد یوسف خان تھا مدظلہ  
استاذ احمدی ثنا جامعہ اشرفیہ لاہور

مؤلف  
محمد حافظ اقبال  
مولانا حافظ محمد اقبال  
فضل جامعہ اشرفیہ

## بیان العلوم

۲۰۔ ناجہہ دو۔ پرانی انارکلی لاہور۔ فون: ۳۴۴۵۷۵۷

﴿ جمل حقوق بحق ناشر مخدوشین ﴾

نام کتاب اسلام میں امام مہدی کو تصور

مؤلف حافظ محمد ظفر اقبال (فاضل جامعاشر فی لاہور)  
اقادرات پروفیسر مولانا محمد نعیف خان صاحب  
(استاذ المحدث جامعاشر فی لاہور)

پاہنچانم

ناشر

محمد نعیم اشرف  
بیت الحروم - ۲۰۰ حصہ روڈ، چک پرانی انارکلی، لاہور  
فون: ۷۳۰۰۰۰۰۰

﴿ ملئے شکنے پتے ﴾

بیت الحروم = گلشنِ اقبال، کراچی

ادارہ اسلامیات = ۱۱۹۰۰ حصہ روڈ، پرانی انارکلی، لاہور

ادارہ المدارف = ڈاک خانہ دار الحروم کوئی کراچی نمبر ۱۲

ادارہ اسلامیات = موبائل روڈ چک اردو بازار، کراچی

کتبخانہ دار الحروم = جامعہ دار الحروم کوئی کراچی نمبر ۱۲

دارالاشراف = اردو بازار، کراچی نمبر ۱۲

کتبخانہ احمد مجید = الکریم ہماری کیٹ، اردو بازار، لاہور

بیت القرآن = اردو بازار، کراچی نمبر ۱۲

کتبخانہ عائی = غریبی سڑی، اردو بازار، لاہور

## فہرست مضمایں

نمبر شمار	عنوان	صفہ نمبر
۱	تقریظ (حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب)	۱۵
۲	کلمات بارکات (حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب)	۱۶
۳	تقریظ (حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب)	۱۷
۴	پیش لفظ (حضرت مولانا محمد کفیل خان صاحب)	۱۸
۵	عرض مؤلف	۲۱
۶	مقدمہ کتاب (حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب)	۲۲
	<b>باب اول</b>	
	<b>﴿ عقیدہ ظہور مہدی ﴾</b>	
۷	وہ آیات جن میں امام مہدیؑ کی طرف اشارہ ہے	۳۰
۸	ظہور مہدیؑ اہلسنت و اجماعت کا عقیدہ	۳۳
۹	ظہور مہدیؑ کی قطعیت	۳۵
۱۰	امام مہدیؑ کے لیے "رضی اللہ عنہ" کا خطاب	۳۶
۱۱	حضرت مہدیؑ کے لیے "امام" کا خطاب	۳۶
۱۲	حضرت امام مہدیؑ کے بارے میں اہل حق کا فتویٰ	۳۷
۱۳	امام مہدیؑ سے متعلق روایات کے اوی صحابہ کرام	۳۸
۱۴	علماء کرام کی احادیث مہدیؑ کی بابت آراء	۳۹
۱۵	وہ کتابیں جن میں ضمناً امام مہدیؑ کا تذکرہ ہے	۴۲
۱۶	امام مہدیؑ کے بارے میں مستقل تصنیف	۴۸

۵۱	امام مہدیؑ افضل یا شریف؟	۱۷
۵۲	علامہ سید علیؑ کا جواب	۱۸
۵۳	علامہ ابن حجر ؓ کی کتاب کا جواب	۱۹
۵۴	علامہ سید محمد برزخیؑ کا جواب	۲۰
	باب دوم	
	﴿حضرت امام مہدیؑ کا نام و نسب﴾	
۵۹	حضرت امام مہدیؑ کا نام	۲۱
۶۳	حضرت امام مہدیؑ کا نسب	۲۲
۶۵	لفظ "عترت" کی تحقیق	۲۳
۶۷	حضرت امام مہدیؑ ہستی ہوں گے یا حسینی؟	۲۴
۷۰	ایک عجیب نکتہ	۲۵
۷۱	کیا حضرت امام مہدیؑ، حضرت عباسؓ کی اولاد میں سے؟	۲۶
۷۳	حضرت امام مہدیؑ کا لقب اور کنیت	۲۷
۷۶	حضرت امام مہدیؑ کی جائے پیدائش	۲۸
۷۷	حضرت امام مہدیؑ کی سیرت	۲۹
۷۷	امام مہدیؑ کی قیادت	۳۰
۷۸	امام مہدیؑ کا زمانہ	۳۱
۷۹	امام مہدیؑ کی سخاوت	۳۲
۸۱	حضرت امام مہدیؑ کی سیرت و اخلاق کریمانہ کا اجمالی نقشہ	۳۳
۸۳	حضرت امام مہدیؑ کا حلیہ مبارک	۳۴
۸۲	حضرت امام مہدیؑ کی خلافت، علی منہاج الدوہ ہوگی	۳۵

۸۷	تبیری	۳۶
باب سوم ﴿ظہور مہدیؑ کی علامات﴾		
۹۱	علامت نمبر ۱	۲۷
۹۲	علامت نمبر ۲	۲۸
۹۳	علامت نمبر ۳	۲۹
۹۴	علامت نمبر ۵ مع فائدہ	۳۰
۹۵	علامت نمبر ۶	۳۱
۹۶	علامت نمبر ۷	۳۲
۹۷	علامت نمبر ۸	۳۳
۹۸	علامت نمبر ۹-۱۱	۳۴
۹۹	علامت نمبر ۱۲-۱۳	۳۵
۱۰۰	علامت نمبر ۱۴-۱۵	۳۶
۱۰۱	علامت نمبر ۱۶-۱۷	۳۷
۱۰۲	علامت نمبر ۱۸	۳۸
۱۰۳	علامت نمبر ۱۹-۲۰	۳۹
۱۰۴	علامت نمبر ۲۱-۲۲	۴۰
۱۰۵	علامت نمبر ۲۳-۲۴	۴۱
۱۰۶	علامت نمبر ۲۵-۲۶	۴۲
۱۰۷	علامت نمبر ۲۷-۲۸	۴۳
۱۰۸	علامت نمبر ۲۹-۳۰	۴۴
۱۰۹	علامت نمبر ۳۱-۳۲	۴۵

	<b>باب چہارم</b> <b>﴿ظهور مہدیؑ سے قبل کے واقعات﴾</b>	
۱۱۳	خروج سفیانی	۵۵
۱۱۴	سفیانی کا نام	۵۶
۱۱۵	سفیانی کی حکومت اور مدت حکومت	۵۷
۱۱۶	فتنه سفیانی کی سختی	۵۸
۱۱۷	خروج سفیانی کی کیفیت	۵۹
۱۱۸	تبیہ (ازوم استحقاقی، ازوم تفضلی)	۶۰
۱۲۰	سفیانی کا جھنڈا	۶۱
۱۲۱	خروج سفیانی کا اجمالی نقشہ	۶۲
۱۲۲	فائدہ	۶۳
	<b>باب پنجم</b> <b>﴿ظهور مہدیؑ ترتیب زمانی کے ساتھ واقعات کے تناظر میں﴾</b>	
۱۲۴	دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا	۶۴
۱۲۸	سفیانی کی بیان اور اصحاب وغیرہ سے جنگ	۶۵
۱۲۹	سفیانی کی ترک اور روم سے جنگ	۶۶
۱۲۹	سفیانی کا فساد برپا کرنا	۶۷
۱۳۰	امام مہدیؑ کا مکہ میں روپوش ہونا	۶۸
۱۳۰	گورنر کا دھوکہ دینا	۶۹

۱۳۱	حج کی ادائیگی کا امیر کے بغیر ہونا	۷۰
۱۳۱	سات بڑے بڑے علماء کا امام مہدیؑ کو تلاش کرنا	۷۱
۱۳۱	فائدہ	۷۲
۱۳۲	امام مہدیؑ کا حجر اسود کے پاس ملنا	۷۳
۱۳۳	فائدہ	۷۴
۱۳۳	امام مہدیؑ کا بیعت لینا	۷۵
۱۳۳	امام مہدیؑ کا پہلا خطبہ	۷۶
۱۳۴	امام مہدیؑ کے اعوان و انصار	۷۷
۱۳۵	ابوالغصائب اور نجباء سے کون لوگ مراد ہیں؟	۷۸
۱۳۸	مقام بیداء میں شکر سفیانی کا دھننا	۷۹
۱۳۸	اہل خراسان پر کیا ہوتی؟	۸۰
۱۳۹	خراسان سے سیاہ جھنڈوں کے ساتھ روانگی	۸۱
۱۴۰	سفیانی کے ساتھ جنگیں	۸۲
۱۴۰	کلمہ حق کہنے کی سزا	۸۳
۱۴۱	امام مہدیؑ کی کرامت	۸۴
۱۴۱	سفیانی کا بیعت کرنا	۸۵
۱۴۲	عبد الحکمی	۸۶
۱۴۳	سفیانی کا قتل	۸۷
۱۴۳	مال غیمت کی تقسیم	۸۸
۱۴۴	استحکام اسلام	۸۹
۱۴۴	فائدہ	۹۰
۱۴۴	جنگ عظیم	۹۱

۱۳۵	۹۶۰۰۰۰ فوج کاروانہ ہوتا	۹۲
۱۳۶	رومیوں کا مطالبہ اور لشکر اسلام کے تین حصے	۹۳
۱۳۷	شام پر رومیوں کا قبضہ	۹۴
۱۳۸	رومیوں کی نکست	۹۵
۱۳۹	باتی ماندہ لشکر کے تین حصے	۹۶
۱۴۰	جبریلؐ و میکائیلؐ کا فرشتوں کی فوج لے کر اتنا	۹۷
۱۴۰	رومیوں کی دھوکہ وہی	۹۸
۱۴۱	خلیج کا محاصرہ	۹۹
۱۴۲	خود و جال	۱۰۰
۱۴۲	جنگ خلیج کی تفصیل ایک دوسری روایت سے	۱۰۱
۱۴۳	بیت المقدس کا خزانہ	۱۰۲
۱۴۴	نفرہ بکیر سے شہرخ ہو جائے گا	۱۰۳
۱۴۵	پوری دنیا کی حکمرانی	۱۰۴
۱۴۶	جنگ خلیج کے بعد کیا ہو گا؟	۱۰۵
۱۴۷	حضرت امام مہدیؑ کی وفات اور ان کی مدت حکومت	۱۰۶
۱۴۸	ظہور کے وقت امام مہدیؑ کی عمر	۱۰۷
۱۴۹	امام مہدیؑ کا انتقال طبعی ہو گا	۱۰۸
باب ششم		
﴿احادیث و آثار متعلقہ بالا امام المہدیؑ﴾		
۱۵۰	صحیحین کی وہ روایات جو امام مہدیؑ سے متعلق ہیں	۱۰۹
۱۵۱	روایت نمبر:	۱۱۰

۱۷۱		روايت نمبر: ۲	۱۱۱
۱۷۲		روايت نمبر: ۳	۱۱۲
۱۷۳		روايت نمبر: ۴	۱۱۳
۱۷۵		فائدہ	۱۱۴
۱۷۶		روايت نمبر: ۵	۱۱۵
۱۷۷		فائدہ	۱۱۶
۱۷۷		تسبیح	۱۱۷
۱۷۷		روايت نمبر: ۶	۱۱۸
۱۷۹		فائدہ	۱۱۹
۱۸۱		روايت نمبر: ۷	۱۲۰
۱۸۱		فائدہ	۱۲۱
۱۸۲		روايت نمبر: ۸	۱۲۲
۱۸۳		فائدہ	۱۲۳
۱۸۵	روايات صحابہ دربارہ امام مہدی علیہ الرضوان		۱۲۴
۱۸۵	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت		۱۲۵
۱۸۶	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت		۱۲۶
۱۸۶	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت		۱۲۷
۱۸۷	حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت		۱۲۸
۱۸۸	حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت		۱۲۹
۱۸۸	حضرت حفصة رضی اللہ عنہا کی روایت		۱۳۰
۱۸۹	حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی روایت		۱۳۱
۱۹۰	حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی روایت		۱۳۲

۱۹۰	حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت	۱۳۳
۱۹۲	حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۳۲
۱۹۲	حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت	۱۳۵
۱۹۳	حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۳۶
۱۹۳	حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۳۷
۱۹۳	حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۳۸
۱۹۳	حضرت عبد اللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۳۹
۱۹۳	حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۳۰
۱۹۵	حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی روایت	۱۳۱
۱۹۵	حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۳۲
۱۹۶	حضرت ابوامام رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۳۳
۱۹۷	حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی روایت	۱۳۴
۱۹۸	حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی روایت	۱۳۵
۱۹۸	حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۳۶
۱۹۹	حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت	۱۳۷
۲۰۰	حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۳۸
۲۰۰	حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۳۹
۲۰۱	حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۵۰
۲۰۲	حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۵۱
۲۰۲	حضرت عمرو بن سکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۵۲
۲۰۳	حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۵۳
۲۰۳	حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۵۴

## تقریظ

جامع المعقول والمنقول، استاذ العلماء والفقهاء، محقق زماں، مقرر شیریں بیان  
حضرت مولانا عبدالرحمٰن اشرفی صاحب مدظلہ العالی۔

الحمد لله و كفى والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد!  
حضرت علی مرضی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ  
سریر آرائے خلافت ہوئے اور چھ ماہ بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت  
سے دستبردار ہو گئے تو ”المشایدہ بقدر المجادہ“ کے تحت بارگاہ خداوندی سے ان کو یہ انعام  
دیا گیا کہ آخر زمانے میں ان کی اولاد میں سے ایک جلیل القدر خلیفہ ہونا مقرر فرمادیا جس  
کو دنیا ”مہدی“ کے نام سے جانتی ہے۔

عربی زبان میں اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن ان میں سے  
اکثر نادر و نایاب ہیں اور جو درستیاب ہیں، ان سے اردو دان طبقہ مستفید نہیں ہو سکتا نیز اس  
موضوع پر اردو میں ایک آدھ کتاب ہی کا حوالہ ملتا ہے جس میں مکمل تفصیلات نہ ملنے کی وجہ  
سے قاری نقشگی کا شکار رہتا ہے اس لحاظ سے عزیزم محمد ظفر سلمہ کی غالباً یہ چہلی کاؤش ہے جو  
اس موضوع پر اہل سنت والجماعت کے عقائد کی آئینہ دار اور اس کی تفصیلات کو حاوی ہے۔  
اللہ تعالیٰ اس کاؤش کو قبول فرمائیں اور عزیزم ذکور کو مزید تصنیفی  
خدمات سرانجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔

آمین

عبدالرحمٰن اشرفی

خادم الحدیث جامعہ اشرفیہ مسلم ناؤن لاہور۔

۱۶، جمادی الاولی ۱۴۲۵ھ

## کلماتِ بارکات

بحر العلوم، نمونہ اسلاف، رأس الاقیاء  
حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ادام اللہ بقاوہ علینا

هذه المقالة من مولانا محمد ظفر اعز الله ایاہ، موجبات،  
سالبات، رائعتات، صادقات جزی اللہ ایاہ.

### اخبار المقالة

موجبات، سالبات، رائعتات، صادقات	فهـمـهـاـعـلـمـ لـحـقـ يـاـحـبـ
ماهیات، ثابتات، یارغیب	فـاقـرـؤـهـاـ وـانـظـرـوـهـاـ یـاـقـرـبـ

(نوٹ) رقم المعرفہ کی درخواست پر حضرت الاستاذ نے پہلے تیر میں مندرجہ بالاعبارت تحریر فرمائی تھی، بعد میں اشعار کے اندر اپنی تقریبی تلفیظ کو از خود ہی منتقل فرمایا، اور باہمی مشورے سے یہ طے پایا کہ ان دونوں کو بطور یادگار روزینظر مقالہ کا حصہ بنادیا جائے۔  
ذہن میں رہے کہ حضرت نے اس بات کی نشاندہی بھی فرمائی ہے کہ مذکورہ اشعار بحرِ ملک تام کے ذریں پر ہیں۔

## تقریظ

استاذ العلماء، مقرر شیریں بیان، نائب مہتمم جامعہ اشرفیہ

حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب مدظلہ

عزیزم مولوی حافظ محمد ظفر سلمہ کا مقالہ مختلف مقامات سے معاینہ کیا دی  
خواہش پیدا ہوئی کہ یہ مقالہ اگر جلد از جلد طبع ہو جائے تو اس تحقیق اور رسیج سے بہت  
سارے احباب کو نفع ہوگا۔

یہ مقالہ جو کہ اب پوری کتاب کی شکل میں تیار ہو چکا ہے اور جس میں تمام امور  
کے حوالہ جات لکھے گئے ہیں اور پھر سلف صالحین کے اقوال اور احادیث مبارکہ سے ان کو  
مزین کیا گیا ہے۔

میری دیانت دارانہ رائے ہے کہ اگر کوئی شخص حقیقت پسندی کے ساتھ اس کا  
مطالعہ کرے گا تو یہ بات بالکل عیاں ہو کر اس کے سامنے آجائے گی کہ سیدنا حضرت امام  
مہدیؑ کی آمد حقیقت پرمنی ہے اور اس سے انکار تعصب اور عناد کی وجہ سے ہی کیا جا سکتے  
ہے۔

میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ میرے اس عزیز اور اس کے اساتذہ اور اس  
کتاب کے ناشر کے لیے اس کتاب کو صدقہ جاریہ بنادے۔ آمین

(حافظ) فضل الرحمن

خادم الطلباء جامعہ اشرفیہ لاہور

۱۰ جمادی الثانی ۱۴۲۵ھ

## پیش لفظ

استاذ العلماء، مقرر شعلہ بیان، سر پرست و مربي من  
 حضرت مولانا محمد کفیل خان صاحب دامت برکاتہم  
 الحمد لله وَ كَفَى وَ سَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَيْتَ  
 وَ جُو مَهْدِي، عَلَامَاتِ مَهْدِي اور عقیدۃ ظہور مَهْدِي  
 یہ وہ معرکتہ الآراء، اہم اور سنجیدہ موضوع ہے جس پر اردو ادب اور دینی لٹریچر  
 میں کوئی سنجیدہ اور اہم تحریر کامل وضاحت و صراحة سے موجود نہیں، اگر ہے بھی تو وہ  
 خارجیت یا رافضیت کے زیر اثر افراط و تفریط کا شکار۔  
 راہ اعتدال پر گامزنا رہتے ہوئے، مناظرانہ رنگ لیے بغیر اس موضوع پر اہل  
 سنت والجماعت کا موقف کامل احتیاط اور ولائیں و برائیں سے آراستہ فی الحال دستیاب نہیں۔  
 ممکن ہے کہ کبھی اس موضوع پر مناظرانہ مبالغہ آرائی کے بغیر کچھ لکھا گیا ہو جو، اب موجود  
 نہیں۔

اس موضوع کی سب سے اہم بات یہی ہے کہ اس میں راہ اعتدال اور مسلک  
 اکابر کو ہر آن پیش نظر رکھنا ہی اس موضوع سے انصاف کے تقاضے پورا کرتا ہے، ایک بال  
 برابر آگے پچھے ہونا رافضیت کی اندر ہر نگری میں گرنے یا خارجیت کے نہری جال میں  
 سچنے کے مترادف ہے۔

زیر نظر مقالہ جو جامعہ اشرفیہ کے ہونہار اور ذی استعداد طالب علم حافظ مولوی  
 محمد ظفر سلمہ کی تحقیق و کاؤش کا نتیجہ ہے، کئی اعتبار سے علم دوست اور صاحبان ذوق کے

لیے تکمیل کا سامان لیے ہوئے ہے۔

(۱) ازاول تا آخر تحریر اپنے موضوع سے مکمل مضبوط اور زنجیر کی کڑیوں کی طرح جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔

(۲) وہ تمام کتب جن کے حوالے درج کیے گئے ہیں، ان کے تمام حوالہ جات اصل کتابوں سے اخذ کردہ ہیں۔

(۳) سب سے اہم اور خاص بات یہ کہ پورے مقاولے میں کہیں بھی مناظرے، مجادے اور مکابرے کا رنگ نظر نہیں آتا جو میرے خیال میں ایک مشکل ترین کام تھا جسے بخوبی انجام دیا گیا۔

(۴) ایک اور اہم ترین اور خاص بات یہ ہے کہ ملک کے ماہی ناز علیٰ مراکز اور دینی مدارس کے تصدیق شدہ فتاویٰ جات مسلک ہونے سے اس مقاولے کی اہمیت دوچند ہو گئی ہے۔

(۵) اسی طرح وہ حضرات علماء کرام جس کی رائے اس مسئلے میں کچھ اختلاف پہلو لیے ہوئے تھی، اس کو بطریق احسن فتاویٰ جات کی روشنی میں حل کیا گیا ہے۔

(۶) انداز اختہائی مرتب، مضبوط اور جامع ہے، طریق تحریر و تجویض اور پرکشش ہے جس کی وجہ سے یقین اور مشکل موضوع بھی قاری کی توجہ پا سانی حاصل کر لیتا ہے، بہر حال! یہ ایک عمدہ بلکہ عمدہ ترین کوشش و کاوش ہے جسے جتنا بھی سراہا جائے، کم ہے اور خصوصی طور پر اس کوشش کے پس منظر میں استاذ العلماء حضرت مولا نانا پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف خان صاحب مدظلہ استاذ الحدیث جامعہ اشرفیہ کی خصوصی توجہات اور مہربانیاں ہیں جنہوں نے مقالہ نگار کو انتخاب موضوع سے اختتام تحریر تک اپنے قیمتی ترین اوقات سے لحاظت بابرکات عنایت فرمائے اور یوں یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچا اور پھر اکابرین علماء کرام کی تقریظات نے اس پر چار چاند لگادیے۔

اللہ تعالیٰ مقالہ نگار عزیزم میرے شاگرد رشید حافظ مولوی محمد ظفر سلمہ کو خوب خوب علمی و عملی ترقیات سے مالا مال فرمائے اور دینی موضوعات پر تحقیق و تفتیش کے اہم ترین کام کے لیے قبول فرمائے اور ہمارے سرپرست و مہربان استاذ مکرم حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب مدظلہ کے ساتھ کوتادیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے اور ائمہ علمی فیض یاب فرمائے۔

اور بالخصوص ناشر محترم عزیزم مولانا محمد ناظم اشرف صدیقی صاحب مدظلہ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔

آمین یارب العلمین  
العبد الفقیر محمد کفیل عنہ  
مدرس جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد لاہور

## عرض مؤلف

مہدی اور ظہور مہدی زمانہ جدید ہی میں نہیں، زمانہ قدیم سے ہی محل بحث و تحقیص اور موضوع کلام رہا ہے اور شروع ہی سے اس میں افراط و تفریط برتنی جاتی رہی ہے چنانچہ بعض لوگوں نے تو اسی کو اوڑھنا پچھوتا بنا کر انتظار مہدی ہی میں اپنی حیات عزیز اور متاع شین کو گنوادیا، کسی نے محض چند ضعیف حدیثوں کو دیکھ کر احادیث مہدی اور وجود و ظہور مہدی سے عہدہ برآئی کا اعلان کر دیا، متفقین میں اس فہرست کے اندر آپ کو ان خلدون کا نام نظر آئے گا اور متاخرین میں آپ کو دور جدید کے مجده دین اور نام نہاد مفسرین مل جائیں گے جن پر مفصل تبیر آپ اسی کتاب کے آخر میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

انہی لوگوں میں دوران مطالعہ قاضی سلیمان منصور پوری<sup>۱</sup> کا "صحت احادیث مہدی کا انکار" بہت بھیس لگا کیونکہ قاضی صاحب ماضی قریب ہی کی شخصیت ہیں اور ان سے پہلے حضرت تھانوی<sup>۲</sup> بڑی وضاحت کے ساتھ "مؤثرۃ الطنون عن ابن خلدون"<sup>۳</sup> میں ابن خلدون کے اعتراضات کاٹھوں اور مدل جواب دے چکے تھے۔

اس موقع پر یہ وضاحت بھی بے فائدہ نہ ہوگی کہ بعض لوگ امام ابوحنین<sup>۴</sup> سے اظہار بعض کے کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، زیر بحث مسئلہ میں بھی انہوں نے کسی ختنی کا یہ قول ڈھونڈ نکالا کہ امام مہدی<sup>۵</sup> اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام ابوحنین<sup>۶</sup> کی تقلید کریں گے، حاشا اللہ! کہ تحقیق سے اس کو دور کا بھی مس ہو، اصل بات یہ ہے کہ بعض

۱۔ قاضی صاحب نے اپنی مشہور کتاب "تاریخ الشاہیہ م ۱۸۸" پر ابن تومرت کے حالات لکھنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ تاریکیں ان حالات کو پڑھیں اور دیکھیں کہ مہدی کے نام سے دنیا میں بالخصوص دنیاۓ اسلام میں کیا کچھ ہو چکا ہے، مجھے اس مقام پر اس تدرک اللہ دینا چاہیے کہ ظہور مہدی کے متعلق اگرچہ روایات بکثرت ہیں جن کا شمار درجنوں پر ہے مگر اسی حدیث ایک بھی نہیں ہے جو محمد شین کے مسلم اصول تغییب کے مطابق صحیح مندرجہ کا درجہ رکھتی ہو۔ اعلم عند اللہ۔

بزرگوں کا "کشف" ہے کہ ان حضرات کا اجتہاد، امام صاحبؑ کے اجتہاد سے ملتا جلتا اور مشابہ ہوگا، اب مفترض نے یہ نہیں دیکھا کہ کشف جدت شرعیہ بھی ہے یا نہیں؟ مشبہ اور مشبہ بہ میں کوئی فرق بھی ہوتا ہے یادوں کا مکمل طور پر محدود ہونا ضروری ہے؟ اور اس پر اعتراض کی بنیاد کھڑی کر دی، حالانکہ نہ تو کشف ہی جدت شرعیہ ہے اور نہ ہی مشبہ و مشبہ بہ میں مکمل اتحاد ضروری ہے لہذا یہ اعتراض لغو اور بیکار ہے۔

الغرض! کچھ لوگ ظہور مہدی کے منکر ہو گئے اور کچھ لوگوں نے دعویٰ مہدویت کرنے میں بھی کوئی خوف محسوس نہیں کیا اور نہایت بیباکی سے اپنے اس موقف پر ڈٹے رہے بلکہ ملا علی قاریؒ اور صاحب مظاہر حق کے مطابق تو بعض لوگوں نے اپنے گرد او باشوں کی ایک جماعت اکٹھی کر کے لوگوں سے زبردستی اپنے "مہدی" ہونے کو منوانے کی کوشش کی، جس کا انجام بالآخر ناکامی ہوا۔

اس کی مکمل تفصیلات تو قارئین کرام آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں گے  
یہاں اجمالی طور پر کتاب سے متعلق چند باتیں عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

(۱) اس کتاب میں امام مہدیؒ سے متعلق اہل سنت والجماعت کے عقائد بیان کئے گئے ہیں اس لیے امید ہے کہ اس موضوع سے متعلق اہل سنت والجماعت کے عقائد صحیح ہی قارئین کے ذہن میں جگہ پائیں گے۔

(۲) بعض وجوہات کی بناء پر کچھ باتیں سکر بھی ہو گئی ہیں لیکن چونکہ موقع کی مناسبت کا لحاظ بھی ضروری تھا اس لیے اس تحریر کو حذف نہیں کیا گیا۔ امید ہے کہ قارئین کرام اس سے ملوں نہ ہوں گے۔

(۳) پروف ریڈنگ میں انتہائی احتیاط برتنی گئی ہے تاہم اگر بتقااضیے بشریت مضمون یا پروف ریڈنگ کی کوئی غلطی قارئین کرام پائیں تو اس کو میرے اساتذہ کی طرف منسوب کرنے کی وجہ سے سمری کم علمی اور بے بنا ہی پر محظوظ کر کے مطلع فرمائیں۔ انشاء اللہ اپنی غلطی سے رجوع کرنے میں مجھے کوئی باک محسوس نہ ہوگا۔

نے پاسی ہو گی کہ اگر میں اپنے انہائی شفیق استاذ حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب مدظلہ کا شکریہ ادا نہ کروں جنہوں نے قدم قدم پر انگلی پکڑ پکڑ کر رہنمائی فرمائی، حق یہ ہے کہ اس کتاب کو آنہی کی طرف منسوب کیا جائے، نیز اس موقع پر میں اپنے انہائی مشق سر پرست، مرتبی اور جان و دل سے زیادہ عزیز حضرت مولانا محمد گفیل خان صاحب دامت برکاتہم کے مشوروں اور ہدایات کو بھی فراموش نہ کر سکوں گا، تقریبات لکھنے والے اساتذہ و مشائخ بالخصوص، جامعہ اشرفیہ کے سب سے اولین مدرس، میرے محبوب استاذ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ”اطال اللہ عمرہ“ جن کو حضرت مولانا محمد اور لیں کاندھلوی ”چلتا پھرتا کتب خانہ“ کہا کرتے تھے، کتاب کی نشر و طباعت کا اہتمام کرنے والے استاذ محترم مولانا محمد ناظم اشرف صاحب مدظلہ اور کسی طرح بھی تعاون کرنے والوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی شیان شان اجر جزیل عطا فرمائے اور ان کے طفیل اس رو سیاہ کی بھی مغفرت فرمادے۔ آمین

محمد ظفر

۲۷ جمادی الاول ۱۴۲۵ھ

## ﴿مقدمہ﴾

جانشین شیخ موسیٰ، استاذ العلماء، استاذ الحدیث  
حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب دامت برکاتہم

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ**

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد!

دور حاضر میں عقائد و نظریات کے بدلتے ہوئے مختلف روحانیات میں سے ایک روحان امام مہدیؑ اور ان کے ظہور سے متعلق بھی ہے۔ اسی مقصد کی خاطر مختلف ممالک میں مختلف دعوے روز بروز بلند ہوتے رہتے ہیں چنانچہ کہیں سچ موعود ہونے کا دعویٰ سنائی دیتا ہے اور کہیں مہدیؑ موعود ہونے کے دعوے کا نوں میں پڑتے ہیں۔ کہیں سے یہ شور بلند ہوتا ہے کہ ۲۰۰۷ء میں ظہور مہدیؑ ہو رہا ہے اور کہیں سے یہ نعرہ لگتا ہے کہ امام مہدیؑ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور و نزول کا وقت انتہائی قریب آگیا ہے۔ بس ایک دو سالوں میں ایسا ہونے والا ہے۔

بعض حضرات اپنی اپنی جماعت کے افراد کو امام مہدیؑ کے قبیں قرار دینے میں کوشش نظر آتے ہیں اور بعض حضرات ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنے سر کردہ افراد یا قائدین پر امام مہدیؑ کی علامات چسپاں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دو رجید میں یہ ذہن بن چکا ہے کہ ہر شخص اپنے مخاطبین کے سامنے کوئی ایسی نئی بات پیش کرنا چاہتا ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہو،

اور اس سے اس کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ مخاطبین پر اس کا رعب بیٹھ جائے خواہ اس کو علم و دانش کی راہ سے کوئی مس ہو یا نہ ہو، اور وہ بات سمجھیدگی و وقار کے دائرے میں آتی ہو یا نہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس نئی بات اور نئے دعوے کو وہ پیش کر رہا ہے، نجات نہ دہ اس پر چپاں بھی ہوتا ہے یا نہیں؟

یہ تو تصویر کا ایک رخ تھا، اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جس میں ظہور مہدیؒ کے انکار کی روح کا فرمان نظر آتی ہے چنانچہ بھی محدثانہ انداز سے جرح و تقدیم کے ذریعے ظہور مہدی کا انکار کیا جاتا ہے اور کبھی اس سلسلے کی احادیث کو ایرانی اور عجمی تخلیقات کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔ بھی یہ دعویٰ تراشا جاتا ہے کہ ظہور مہدی سے متعلق احادیث کو عربی تخلیقات اور قرآن کی صحیح اسپرٹ سے کوئی سروکار نہیں اور کبھی یہ کہہ کر ظہور مہدی کا انکار کر دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں امام مہدیؒ اور ان کے ظہور کا کوئی تذکرہ نہیں، کبھی ظہور مہدی کے عقیدے کو اپنا نے پرے مصیبت قرار دیا جاتا ہے اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ امام مہدیؒ کے متعلق زور دار ثبوت بالکل نہیں ہے۔

ابہابی عقل پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ دونوں نظریے افراط و تفریط پر مبنی ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے کسی بزرگ نے نہ تو اپنے لیے مہدویت کا دعویٰ کیا اور نہ ظہور مہدی کا انکار کیا بلکہ انہوں نے اس کو بعینہ اسی طرح تسلیم کیا جیسا کہ احادیث میں اس کی وضاحت آتی ہے۔

اس رسالے کی وجہ ترتیب ایک تو یہی بی کہ لوگ اس سلسلے میں بہت زیادہ افراط و تفریط کا شکار ہیں اور ان کو حق بات اور مستند معلومات تک رسائی حاصل نہیں۔ دسری وجہ اور محرك یہ بنا کہ دور جدید کی دینی مطالعاتی کتب میں امام مہدیؒ کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کا تذکرہ مفقود ہوتا جا رہا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ دور حاضر کے فارغ التحصیل علماء بھی امام مہدیؒ کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتے کہ وہ اپنے مخاطب کو مطمئن کر سکیں، کتب حدیث میں جہاں کہیں امام مہدیؒ کا تذکرہ آتا ہے اس کا سرسری طور پر مطالعہ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہی لوگ بعد میں یا تو ظہور مہدی کے قطعی

منکر ہو جاتے ہیں یا اس موضوع کو اپنے ذہن میں بالکل جگہ نہیں دے پاتے۔ ان وجوہات اور محکمات کی بناء پر اس موضوع کا انتخاب کیا گیا تاکہ قرآن و حدیث کی تعلیمات اور اکابر محدثین و علماء کے آقوال و آراء قارئین کرام کے سامنے پیش کر دیئے جائیں اور امام مہدیؑ کے بارے میں قرآن و سنت کی مستند معلومات اور اس بارے میں درست عقائد ہی ذہن میں جگہ پاسکیں۔

اس رسالے کو سات ابواب اور ایک خاتمه پر مرتب کیا گیا ہے جس کا اجمانی خاکہ یوں ہے:

باب اول .....	عقیدہ ظہور مہدیؑ
باب دوم .....	نام و نسب اور سیرت
باب سوم .....	علامات ظہور مہدیؑ
باب چہارم .....	ظہور مہدیؑ سے قبل کے واقعات
باب پنجم .....	ظہور مہدیؑ ترتیب زمانی کے ساتھ واقعات کے تناظر میں
باب ششم .....	امام مہدیؑ سے متعلق صحیحین کی روایات، ۳۷ صحابہ و صحابیاتؓ کی روایات
باب هفتم .....	منکرین و مدعاوین مہدویت
خاتمه .....	علماء کرام کے فتاویٰ

آخر میں عزیزم مولوی محمد ظفر سلمہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ عزیزم موصوف نے احقر کی گذارشات کے مطابق انتہائی جانشنازی، مسلسل جدوجہد، لگن اور محنت سے مواد کی جستجو کی، اسے جمع کیا اور عمدہ ترتیب کے ساتھ اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

التدرب العزت موصوف کی عمر، علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور کتاب کے ناشر مولانا محمد ناظم اشرف سلمہ کو بھی جزاً نیز عطا فرمائے۔

احقر

محمد یوسف خان عفی عنہ

## باب اول

### عقیدہ ظہور مہدیؑ

قرآنی آیات کا ظہور مہدیؑ کی طرف اشارہ، تو اتر احادیث  
مہدیؑ، امام اور رضی اللہ عنہ کا خطاب، اسماء صحابہ مع حوالہ  
جات، علماء کرام کی آراء، اسماء کتب، امام مہدیؑ افضل یا  
شیخین؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اس دنیا کی ایک ابتداء تھی اور ایک انتہاء ہے، ابتداء ہو چکی اور انتہاء قریب ہے جس کے لیے وقوع قیامت کو علامت قرار دیا گیا ہے اور ان علامات کی صراحت صحیح احادیث میں کثرت سے موجود ہے۔

بنیادی طور پر علامات قیامت کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے چنانچہ محمد تاج عبدالرحمٰن العروی اپنی کتاب ”عقيدة المسلم فی ضوء الكتاب والسنۃ“ کے صفحہ ۳۴۷ پر رقم طراز ہیں:

”علامات قیامت میں سے بعض علامات چھوٹی ہیں اور بعض بڑی۔ پھر چھوٹی علامات کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) وہ علامات جو واقع ہو چکی ہیں۔ (۲) وہ علامات جواب تک واقع نہیں ہوئیں۔ اول قسم میں وہ علامات بھی شامل ہیں جو کہ پوری ہو چکیں اور وہ بھی کہ جن کا ظہور یکدم نہیں ہوا بلکہ آہستہ آہستہ ہوا، اسی طرح وہ علامات بھی کہ جو کمر واقع ہوئیں اور وہ بھی جو مستقبل میں کثرت سے واقع ہوں گی۔“

پھر آگے انہوں نے ہر ایک کی تفصیلات مثالوں کے ذریعے پیش کی ہیں جن سے فی الحال یہاں بحث کرنا مقصود نہیں۔

علامات قیامت میں سے ایک علامت ”ظہور مہدی“ بھی ہے جس پر اس رسالے میں تدریے تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ انشاء اللہ العزیز۔ ”ظہور مہدی“ سے متعلق عقیدے کی بحث سے پہلے اس موضوع سے متعلق قرآنی آیات کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

۱۹۷۹

## ﴿وَهُوَ آيَاتٌ جِنْ مِنْ أَمَامٍ مَهْدِيٌّ كَيْ طَرْفَ اشَارَةٍ مَوْجُودٌ هُوَ﴾

حضرت امام مهدیؑ کا ذکر قرآن کریم میں صراحةً تو نہیں البتہ ایک دو آیتوں میں ان کی طرف اشارہ ضرور پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہیں:

(۱) ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ وَمَطْعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَذْخُلُوهَا إِلَّا خَاتَمُ الْحُكْمِ فِي الدُّنْيَا خَزْنٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (البقرہ: آیت نمبر ۲۷)

اس آیت کے تحت علامہ ابن کثیر قرما تے ہیں:

﴿وَفَسَرَ هُؤُلَاءِ الْخَزْنِ فِي الدُّنْيَا بِخُروجِ الْمَهْدِيِّ عَنْ دَسْدِيِّ وَعَكْرَمَةِ وَوَائِلِ بْنِ دَاؤِدِ﴾ (تفسیر ابن کثیر: ج ۱ ص ۲۰۸) اور ان لوگوں (یہودیوں اور عیسائیوں) کے لیے دنیا میں رسولی کی تفسیر، سدی، عکرمہ اور وائل بن داؤد کے نزدیک ”خروج مهدی“ سے کی گئی ہے۔

اگرچہ یہ تفسیری قول کہ دنیا میں یہودیوں اور عیسائیوں کی اصل رسولی خروج مهدی کے وقت ہو گی، سدی، عکرمہ اور وائل بن داؤد کا ہے لیکن چونکہ احادیث سے ثابت شدہ واقعات اس کی تائید کر رہے ہیں اس لیے اس کو صحیح مان لینے میں بظاہر کوئی حرج بھی نہیں۔

(۲) اسی طرح علامہ ابن کثیرؓ نے آیت قرآنی

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْتَاقَ بَنْيٍ إِسْرَائِيلَ وَبَعْثَنَا مِنْهُمْ أُنْشَأَ نَقِيَّاً﴾ (المائدہ: ۱۲)

کے تحت بارہ خلفاء والی روایت ذکر کی ہے کہ اس امت میں بارہ نیک و عادل

خلفاء ہوں گے اور یہ روایت منداحمد کے حوالے سے بدیں الفاظ منقول ہے۔

﴿عَنْ مُسْرُوقٍ قَالَ كَنَا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْعُودٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ يَقْرَئُنَا الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَاهُ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَهُلُّ سَالْتَمِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمْ يَمْلِكُ

هَذِهِ الْأَمَّةِ مِنْ خَلِيفَةٍ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا سَالْتَنِي عَنْهَا أَحَدٌ

مِنْذَ قَدْمَتِ الْعَرَاقَ قَبْلَكَ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ وَلَقَدْ سَالَنَا رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اثْنَا عَشَرَ كَعْدَةً نَبِيًّا بْنَى إِسْرَائِيلَ. هَذَا

حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَصْبَلَ هَذَا الْحَدِيثَ ثَابِتًا

فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَزَالُ امْرُ النَّاسِ

مَاضِيًّا مَا وَلَيْهِمْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ثُمَّ تَكَلَّمُ النَّبِيُّ ﷺ

بِكُلِّمَةٍ خَفِيتُ عَلَى فَسَالَتْ إِيْ مَاذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ؟

قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قَرِيشٍ. وَهَذَا لِفْظُ مُسْلِمٍ وَمَعْنَى هَذَا

الْحَدِيثُ الْبَشَارَةُ بِوُجُودِ اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً صَالِحًا يَقِيمُ

الْحَقَّ وَيَعْدِلُ فِيهِمْ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ هَذَا تَوَالِيهِمْ وَتَنَابِعِ

إِيَّاهُمْ بَلْ وَقَدْ وَجَدْنَاهُمْ أَرْبَعَةً عَلَى نَسْقٍ وَهُمُ الْخَلِفَاءُ

الْأَرْبَعَةُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٌ وَعُثْمَانٌ وَعَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

وَمِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْلَاشْكُ عَنْدَ الْأَنْتَمَةِ وَبَعْضُ

بَنِي الْعَبَّاسِ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ وَلَا يَتَّهِمُ لَا

مَحَالَةٌ وَالظَّاهِرَانِ مِنْهُمْ الْمَهْدِيُّ الْمُبَشِّرُ بِهِ فِي

الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِذَكْرِهِ فَذَكْرُهُ يُوَاطِئُ اسْمَهُ اسْمَ

النَّبِيِّ ﷺ وَاسْمَ ابِيهِ اسْمَ ابِيهِ فِيمَلًا الْأَرْضَ عَدْلًا

وَقَسْطًا كَمَا مَلَّتْ جُورًا وَظُلْمًا﴾ (تَفْيِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ: ج ۲ ص ۲۷۲)

”سروق کہتے ہیں کہ (ایک دن) ہم حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہمیں قرآن پڑھا رہے تھے کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ اے ابو عبد الرحمن! کیا آپ لوگوں نے حضور ﷺ سے یہ پوچھا تھا کہ اس امت میں کتنے خلفاء ہوں گے؟ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ جب سے میں عراق آیا ہوں، تجھ سے پہلے کسی نے یہ سوال نہیں کیا، پھر فرمایا کہ ہاں! ہم نے حضور ﷺ سے اس بارے میں سوال کیا تھا اور آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ اس امت میں بنی اسرائیل کے نقباء کی تعداد کے برابر یعنی بارہ خلفاء ہوں گے، یہ حدیث اس سند سے تو ایک ہی روایی سے مروی ہے لیکن اس کی اصل بخاری و مسلم میں حضرت جابر بن سمرةؓ کی حدیث سے موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کا یہ امر (دین) ٹھیک ٹھیک چلتا رہے گا جب تک کہ بارہ آدمی زمین میں حکمران (خلیفہ) نہ ہو جائیں، پھر حضور ﷺ نے آہستہ سے ایک بات کہی (جو میں سن نہ سکا) تو میں نے (پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے) پوچھا کہ حضور ﷺ نے کیا فرمایا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ وہ بارہ کے بارہ خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ روایت کے یہ الفاظ امام مسلم نے نقل کیے ہیں:

اس حدیث کا مقصد بارہ صالح خلفاء کے وجود کی بشارت دینا ہے جو لوگوں میں حق اور انصاف کو قائم کریں گے لیکن اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بارہ خلفاء یکے بعد دیگرے لگاتار آئیں گے، بلکہ ان میں سے چار تو علی الترتیب خلفاء اربعہ یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم ہی ہیں اور بااتفاق ائمہ عمر

بن عبدالعزیزؒ بھی ان میں شامل ہیں، نیز بنو عباس کے بعض خلفاء بھی ان میں سے ہیں اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ سب خلیفہ نہ ہو جائیں، اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان بارہ خلفاء میں امام مهدیؑ بھی داخل ہیں جن کے متعلق احادیث میں بشارت آئی ہے چنانچہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ امام مهدیؑ کا نام، حضور ﷺ کے نام جیسا ہوگا اور ان کے والد کا نام، آپ ﷺ کے والد کے نام جیسا ہوگا اور وہ زمین کو عدل والنصاف سے اسی طرح بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و قسم سے بھری ہوئی ہوگی۔“

### ﴿ظہور مهدیؑ اہلسنت والجماعت کا عقیدہ﴾

چونکہ حضرت امام مهدیؑ کا ظہور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شامل ہے اس پر عقائد کی روشنی میں بحث کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے چنانچہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اخیر زمانے میں امام مهدیؑ کا ظہور برحق اور صدق ہے اور ان کا ظہور اس قدر روایات سے ثابت ہے کہ جن پر تواتر معنوی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے چنانچہ محمد شہیر مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ نے مشکوٰۃ شریف کی شرح ”تعليق اربع“ ج ۱۹۸ پر شرح عقیدہ سفارینی ج ۲ ص ۸۰ سے نقل کیا ہے۔

﴿قال السفارینی قد کثرت الروایات بخروج المهدی حتى بلغت حد التواتر المعنوی و شاع ذلك بين علماء السنة حتى عدد من معتقداتهم فالایمان بخروج المهدی واجب كما هو مقرر عند اهل العلم ومدون في عقائد اهل السنة والجماعة﴾

”امام سفارینی نے فرمایا ہے کہ خروج مهدیؑ کی روایات اتنی کثرت

کے ساتھ موجود ہیں کہ وہ تو اتر معنوی کی حد تک پہنچ چکی ہیں اور یہ بات علماء اہل سنت کے درمیان اس درجے مشہور ہے کہ وہ ان کے عقائد میں شمار ہوتی ہے بس امام مهدیؑ کے ظہور پر حسب بیان علماء عقائد اہل سنت والجماعات، ایمان لانا ضروری ہے۔

اسی طرح بذل الحجہ و در شرح ابو داؤد میں حدیث "لولحد یق من الدنیا ..... الخ" کی شرح میں مرقوم ہے۔

﴿ حاصل معنی الحدیث ان بعثه مؤکد یقینی لا بدان یکون ﴾ (بذل الحجہ: ج ۵ ص ۱۰۱)

"حدیث کا حاصل معنی یہ ہے کہ امام مهدیؑ کا بھیجا جانا موقّد اور یقینی بات ہے اور ایسا ہونا ضروری ہے۔"

نیز حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ اپنی کتاب "عقائد الاسلام" حصہ اول کے ص ۶۲ پر "فائدہ جلیلہ" کے عنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں۔

"اہل سنت والجماعات کے عقائد میں ہے کہ امام مهدیؑ کا ظہور اخیر زمانے میں حق اور صدق ہے، اس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے اس لیے کہ امام مهدیؑ کا ظہور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے اگرچہ اس کی بعض تفصیلات اخبار آحاد سے ثابت ہیں، عہد صحابہ و تابعین سے لے کر اس وقت تک امام مهدیؑ کے ظہور کو مشرق و مغرب میں ہر طبقہ کے مسلمان علماء اور صلحاء عوام اور خواص ہر قرن اور ہر عصر میں نقل کرتے چلے آئے ہیں۔"

اسی طرح حضرت مولانا سید بدر عالم مہاجر مدینی نے بھی ترجمان النہیج ص ۳۷۸ پر شرح عقیدہ سفاریہ کے حوالے سے ظہور مهدیؑ کی روایات پر تو اتر معنوی کا دعویٰ کیا ہے اور شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ نے بھی "آپ کے مسائل اور ان کا حل" کی جلد اول میں ایک صاحب کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس پر قدر تفصیلی

بحث فرمائی ہے اور ظہور مہدیؑ کو اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شمار کیا ہے۔

## ﴿ظہور مہدیؑ کی قطعیت﴾

ظہور مہدیؑ اس قدر یقینی بات اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس سلسلے میں ملا علی قاریؒ نے مرقاۃ الفاتح ج ۱۰ ص ۲۷۸ پر مندا احمد اور ابو داؤد کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿لولهم يق من الدهر الا يوم لبعث الله تعالى رجال من  
اہل بيته يملاها عدلا كما ملئت جورا، ورواه ابن  
ماجة عن ابى هريرة مرفوعا لولهم يق من الدنيا الا يوم  
لطول الله ذلك اليوم حتى يملک رجل من اہل بيته  
يملک جبال الدیلم والقسطنطینیة﴾

(مرقاۃ الفاتح: ج ۱۰ ص ۲۷۸)

”اگر زمانے کا صرف ایک دن پچے (اور مہدیؑ نہ آئے، علامات قیامت پوری ہو جائیں) تب بھی اللہ تعالیٰ میرے گھروں میں سے ایک آدمی کو بھیج کر رہیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھروسے گا جس طرح وہ (اس سے پہلے) ظلم و تتم سے بھری ہوئی ہو گی، اور ابن مجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعا روایت کی ہے کہ اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن پچے (تب بھی ظہور مہدیؑ کے لیے) اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کر دیں گے کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی دیلم اور قسطنطینیہ کے پہاڑوں کا مالک ہو جائے۔“

## ﴿امام مہدیؑ کے لیے "رضی اللہ عنہ" کا خطاب﴾

اہل سنت والجماعت امام مہدیؑ کو نہ تو مامور من اللہ سمجھتے ہیں اور نہ ان کا درجہ انبیاء کرام علیہم السلام کے برابر مانتے ہیں اور ہمارے یہاں جوان کو "امام" کہا جاتا ہے اس سے کسی خاص گروہ کا اصطلاحی امام مراد نہیں چنانچہ شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ، امام مہدیؑ کے پارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

"حضرت مہدی علیہ الرضوان کے لیے "رضی اللہ عنہ" کے پر شکوہ"

الفاظ پہلی بار میں نے استعمال نہیں کیے بلکہ اگر آپ نے مکتوبات امام ربانیؒ کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ مکتوبات شریفہ میں امام ربانیؒ مجدد الف ثانیؒ نے حضرت مہدیؑ کو انہی الفاظ سے یاد کیا ہے..... اخ." (آپ کے سائل اور ان کا حل: ج اص ۲۷)

معلوم ہوا کہ حضرت امام مہدیؑ کو "رضی اللہ عنہ" کہنا جائز ہے اور اگر صرف اسی بات کو دیکھ لیا جائے کہ امام مہدیؑ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہوں گے تو ان کے لیے "رضی اللہ عنہ" کا الفاظ استعمال کرنے پر کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا۔

## ﴿حضرت مہدیؑ کے لیے "امام" کا خطاب﴾

اسی طرح حضرت مہدیؑ کے لیے "امام" کا الفاظ استعمال کرنے میں بھی کوئی تباہت نہیں چنانچہ حضرت لدھیانویؒ مذکورہ سائل ہی کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

"جناب کو حضرت مہدیؑ کے لیے "امام" کا الفاظ استعمال کرنے پر بھی اعتراض ہے اور آپ تحریر فرماتے ہیں کہ "قرآن مقدس اور حدیث مطہرہ سے امامت کا کوئی تصور نہیں ملتا" اگر اس سے مراد ایک خاص گروہ کا نظریہ امامت ہے تو آپ کی یہ بات صحیح ہے مگر جناب کو یہ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ میں نے بھی "امام" کا

لفظ اسی اصطلاحی مفہوم میں استعمال کیا ہو گا۔ کم سے کم امام مہدی کے ساتھ ”رضی اللہ عنہ“ کے الفاظ کا استعمال ہی اس امر کی شہادت کے لیے کافی ہے کہ ”امام“ سے یہاں ایک خاص گروہ کا اصطلاحی امام مراد نہیں، (آپ کے مسائل اور ان کا حل: ج ۱ ص ۲۲۲)

نیز حضرت لدھیانویؒ تحریر فرماتے ہیں کہ:

”امام مہدی علیہ الرضوان نبی نہیں ہوں گے اس لیے ان کا درجہ پیغمبروں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مہدیؑ کے زمانے میں نازل ہوں گے وہ بلاشبہ پہلے ہی سے اولوالعزم نبی ہیں، (آپ کے مسائل اور ان کا حل: ج ۱ ص ۲۲۶)

## ﴿حضرت امام مہدیؑ کے بارے میں اہل حق کا فتویٰ﴾

حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں اہل حق کے اتفاقی قول کو نقل کرتے ہوئے حضرت لدھیانویؒ رقم طراز ہیں:

”حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے جو کچھ فرمایا ہے اور جس پر اہل حق کا اتفاق ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے اور نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ ان کا نام نای محمد اور والد کا نام عبد اللہ ہو گا۔ جس طرح صورت و سیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے اسی طرح وہ شکل و شباہت اور اخلاق و شہادت میں آنحضرت ﷺ کے مشابہ ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہو گی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہ ان کی نبوت پر کوئی ایمان لائے گا۔

ان کی کفار سے خونزیر جنگیں ہوں گی۔ ان کے زمانے میں کانے دجال کا خروج ہو گا اور وہ شکر دجال کے محاصرے میں گھر جائیں

گے۔ ٹھیک نماز فجر کے وقت وجال کو قتل کرنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور فجر کی نماز حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں پڑھیں گے، نماز کے بعد وجال کا رخ کریں گے، وہ عین بھاگ کھڑا ہو گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور اسے باب لد پر قتل کر دیں گے، وجال کا شکر تھہ تیغ ہو گا اور یہودیت و نصرانیت کا ایک ایک نشان مٹا دیا جائے گا۔  
یہ ہے وہ عقیدہ جس کے آنحضرت ﷺ سے لے کر تمام سلف صالحین، صحابہ و تابعین اور ائمہ مجددین معتقد رہے ہیں۔“

(آپ کے مسائل اور ان کا حل: ج ۱ ص ۲۶۷)

## امام مہدیؑ سے متعلق روایات

### کے راوی صحابہؐ کرام علیہم الرضوانؑ

اس سے قبل آپ حضرات یہ پڑھ آئے ہیں کہ ظہور مہدیؑ کی روایات اس قدر کثرت سے مروی ہیں کہ ان پر تواتر معنوی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہاں ان صحابہ کرامؐ کی فہرست مع حوالہ جات کے دی جا رہی ہے جنہوں نے امام مہدیؑ سے متعلق روایات نقل کی ہیں اور ان کی روایات آپ اسی کتاب کے باب ششم میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

نمبر شمار	نام صحابی	حوالہ جات
(۱)	حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ	كتاب البرهان ج ۲ ص ۵۵۲
(۲)	حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ	كتاب البرهان ج ۲ ص ۵۹۱، بحوالہ افراد للدارقطنی والتاریخ لابن عساکر۔

(۳)	حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسنند ابی یعلی ج ۱ ص ۳۵۹ المصنف لعبدالرزاق ج ۱۱ ص ۳۷۳، ابن داؤد ج ۲ ص ۳۰۸۰، ابن ماجہ ۲۳۹
(۴)	حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ التذکرہ للقرطبی ص ۷۰۳
(۵)	حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کتاب الفتن ص ۲۶۲، ترجمان السنۃ ج ۳ ص ۳۰۲، مسلم شریف ۷۲۳۲
(۶)	حضرت حضرت رضی اللہ عنہا کتاب الفتن ص ۲۲۷، کتاب البرهان، ج ۲ ص ۷۰۷، مسلم شریف ۷۲۲، ابن ماجہ ۳۰۳۳
(۷)	حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا الاشاعة لاشراط الماعة ص ۲۳۲، ترمذی ۲۱۸۳، ابن ماجہ ۳۰۴۲
(۸)	حضرت ام حبیب رضی اللہ عنہا کتاب البرهان، ج ۲ ص ۲۶۲
(۹)	حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ابو داؤد، ج ۲ ص ۳۲۰، مشکوہ ص ۳۷۱، ترجمان السنۃ ج ۳ ص ۳۵۵، مسلم شریف ۷۲۳۰، ابن ماجہ ۳۰۲۰
(۱۰)	حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ترمذی ج ۲ ص ۳۶، ترجمان السنۃ ج ۳ ص ۳۸۳، الحاوی للفتاوی ج ۲ ص ۷۰، مسلم ۲۸۱، ابو داؤد ۳۲۸۲، ابن ماجہ ۳۰۸۲

<p>المصنف لعبدالرزاق ج ۱۱ ص ۱۷۳، ابو داؤد ج ۲ ص ۲۳۹، ترمذی ج ۲ ص ۳۶، ابن ماجه ۳۰۸۳</p>	<p>حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ</p>	<p>(۱۲)</p>
<p>ترمذی ج ۲ ص ۳۶، بخاری ۳۳۲۹، مسلم شریف ۷۱۱۰، ۷۲۷۵</p>	<p>حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ</p>	<p>(۱۳)</p>
<p>مشکوٰۃ ص ۳۷۱، ترجمان السنة ج ۳ ص ۳۸۱، ابن ماجہ ۳۰۸۳</p>	<p>حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ</p>	<p>(۱۴)</p>
<p>کتاب البرهان ج ۲ ص ۷۳۸، ابن ماجہ ۳۰۸۸</p>	<p>حضرت عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ</p>	<p>(۱۵)</p>
<p>کتاب البرهان ج ۲ ص ۵۶۷، ابن ماجہ ۳۰۸۷</p>	<p>حضرت انس رضی اللہ عنہ</p>	<p>(۱۶)</p>
<p>الحاوی للفتاوی ج ۲ ص ۷۵</p>	<p>حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ</p>	<p>(۱۷)</p>
<p>ترجمان السنة ج ۳ ص ۳۹۹، الاشاعت لاشراط الساعة ص ۲۲۳</p>	<p>حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ</p>	<p>(۱۸)</p>
<p>کتاب البرهان ج ۲ ص ۵۸۲</p>	<p>حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ</p>	<p>(۱۹)</p>
<p>کتاب الفتن ص ۲۳۸</p>	<p>حضرت عبداللہ بن عمر و رضی اللہ عنہما</p>	<p>(۲۰)</p>
<p>کتاب الفتن ص ۲۳۶، کتاب البرهان ج ۲ ص ۵۲۱</p>	<p>حضرت عمار رضی اللہ عنہ</p>	<p>(۲۱)</p>

آثار القيامه فى حجج الكرامه ص ٣٥٦، الحاوی للفتاوى ج ٢ ص ٩٧	حضرت عباس رضى اللہ عنہ	(٢٢)
كتاب الفتن ص ٢٢٣، كتاب البرهان ج ٢ ص ٥١٣، ص ٧٣١	حضرت عبد اللہ بن عمر رضي الله عنها	(٢٣)
كتاب البرهان ج ٢ ص ٥٣٦	حضرت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه	(٢٤)
كتاب البرهان ج ٢ ص ٦٥٢	حضرت حسین رضي الله عنه	(٢٥)
كتاب البرهان ج ٢ ص ٥١٠	حضرت طلحہ رضي الله عنه	(٢٦)
كتاب البرهان ج ٢ ص ٦٦٧	حضرت عمرو بن العاص رضي الله عنه	(٢٧)
كتاب الفتن ص ٣٦٠	حضرت عمرو بن مره رضي الله عنه	(٢٨)
كتاب الفتن ص ٢٦٠	حضرت ابوالطفیل رضي الله عنه	(٢٩)
كتاب البرهان ج ٢ ص ٦١١، ترجمان السنۃ ج ٣ ص ٣٩٦، ابو داؤد ٢٢٩٢	حضرت عوف بن مالک رضي الله عنه	(٣٠)
كتاب البرهان ج ٢ ص ٥٢٣، كتاب الفتن ص ٢٣٧	حضرت اسماء بنت عمیس رضي الله عنها	(٣١)
الحاوی للفتاوى ج ٢ ص ٧٣	حضرت قرة المزني رضي الله عنه	(٣٢)
الحاوی للفتاوى ج ٢ ص ٩٥	حضرت قیس بن جابر رضي الله عنه	(٣٣)

الحاوی للفتاوی ج ۲ ص ۱۰۲ ، ابی داؤد ۹۷۲ ، ۷۲۸۱ ترمذی ۲۲۲۳	حضرت جابر بن سکرہ رضی اللہ عنہ	(۳۴)
کتاب الفتن ص ۱۹۰ ، مسلم شریف ۷۲۷۲	حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ	(۳۵)
مسلم شریف ۷۲۷۲ ابی داؤد ۳۲۹۲	حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ	(۳۶)
	حضرت ذی مخیر رضی اللہ عنہ	(۳۷)

## ﴿علماء کرام کی احادیث مہدیؑ کی بابت آراء﴾

احادیث مہدیؑ کے راوی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اجمالی فہرست آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اب آپ احادیث مہدیؑ کی بابت علماء کرام کی آراء بھی ملاحظہ فرمائیں:

شیخ یوسف بن عبد اللہ الوابل اپنی کتاب "اشراط الساعة" کے ص ۲۵۹ پر "تو اتر احادیث المهدی" کے عنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ "میں نے امام مہدیؑ کے سلسلے کی جو روایات ذکر کی ہیں (اور ان سے زیادہ وہ روایات جو میں نے بخوب طوالت چھوڑ دی ہیں) وہ تو اتر معنوی کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں جیسا کہ علماء نے اس کی تصریح کی ہے، ان میں سے چند علماء کے اقوال میں یہاں بھی ذکر کرنا تھا ہوں۔

### (۱) حافظ ابو الحسن آبریؓ کی رائے:

"امام مہدیؑ کے تذکرہ سے متعلق احادیث بڑی شہرت کے ساتھ حضور ﷺ سے تو اتر منقول ہیں، نیز یہ کہ وہ آپ کے اہل بیت میں سے ہوں گے، سات سال تک حکومت کریں گے۔ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت عیینی علیہ السلام نازل ہوں گے تو امام مہدیؑ دجال کے قتل کے سلسلے میں ان کی مدد کریں گے اور یہ کہ وہ اس امت کے امام ہوں گے اور حضرت عیینی علیہ السلام ان کی اقتداء کریں گے۔"

### (۲) سید محمد برزنجیؓ کی وضاحت:

"تیسرا باب ان بڑی اور قریبی علامات کے بیان میں ہے جن کے بعد قیامت آجائے گی اور یہ علامات بہت زیادہ ہیں۔ مجملہ ان

کے ایک امام مہدیؑ کا ظہور ہے جو کہ قیامت کی پہلی بڑی علامت ہے اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس سلسلے میں مختلف روایات اس قدر کثرت سے مروی ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔“ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ ”یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ امام مہدیؑ کے وجود اور آخر زمانے میں ان کے ظہور اور حضور ﷺ کی اولاد میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہونے کی احادیث تو اتر معنوی کی پہنچ ہوئی ہیں لہذا ان کا انکار کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔“

### (۳) علامہ سفاریؒ کا بیان:

”امام مہدیؑ کے ظہور کی روایات کثرت سے وارد ہوئی ہیں حتیٰ کہ وہ تو اتر معنوی کی حد کو پہنچ چکی ہیں اور یہ بات علماء اہل سنت والجماعت کے درمیان مشہور اور ان کے عقائد میں سے ہے۔ اس کے بعد علامہ سفاریؒ نے ظہور مہدیؑ سے متعلق احادیث و آثار اور ان کے راوی صحابہؓ کے نام ذکر کیے ہیں اور فرمایا کہ مذکورہ اور غیر مذکور صحابہ اور متعدد تابعین سے اس سلسلے کی اتنی روایات متعددہ مروی ہیں کہ وہ سب مل کر علم قطعی کا فائدہ دیتی ہیں لہذا امام مہدیؑ کے ظہور پر ایمان لانا واجب ہے جیسا کہ یہ بات اہل علم کے یہاں ثابت شدہ اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں داخل ہے۔“

### (۴) قاضی شوکانیؒ کی تحقیق:

”امام مہدیؑ کی آمد کے بارے میں جن روایت پر با آسانی مطلع ہونا ممکن ہے۔ وہ پچاس احادیث ہیں جن میں سے کچھ صحیح، کچھ حسن اور کچھ ایسی ضعیف ہیں کہ ان کے ضعف کی تلاشی ہو جاتی

ہے۔ لیکن ان روایات سے جو مجموعی بات حاصل ہوتی ہے وہ متواتر ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیونکہ اصولی حدیث کی اصطلاح کے مطابق اگر کسی سلسلے میں پچھاں سے کم روایات مروی ہوں تو اس سے تو اتر حاصل ہو جاتا ہے، باقی رہے صحابہ کرامؐ کے وہ ارشادات جن میں امام مہدیؐ کے نام کی صراحة آتی ہے وہ تو بہت زیادہ ہیں اور ان کا حکم بھی وہی ہے جو مرفع روایت کا ہوتا ہے اس لیے کہ اس قسم کے واقعات کے بارے میں اجتہاد کی بنیاد پر اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا جاسکتا۔“

### (۵) نواب صدیق حسن خانؒ کی رائے:

”امام مہدیؐ کے بارے میں مختلف روایات بہت کثرت سے دارد ہوئی ہیں جو تو اتر معنوی کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں اور یہ روایات اسلامی کتب کے مجموعہ جات مثلاً سنن، معاجم اور مسانید وغیرہ میں موجود ہیں۔“

### (۶) شیخ جعفر کتابیؒ کا حوالہ:

”خلاصہ کلام یہ ہے کہ مہدیؐ منتظر کے بارے میں احادیث متواترہ موجود ہیں، اسی طرح خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی متواتر احادیث موجود ہیں۔“ (یہ تمام اقوال کتاب ”اشراط الساعة“ ص ۲۵۹ تا ۲۶۲ سے مخذول ہیں)

### (۷) حافظ ابو جعفر عقیلؑ کی وضاحت:

حافظ ابو جعفر عقیلؑ اپنی کتاب ”کتاب الضعفاء“ میں علی بن نفیل نہدیؑ کے حالات زندگی تحریر فرماتے ہوئے امام مہدیؐ سے متعلق اس کی روایت کردہ ایک حدیث

کے تحت فرماتے ہیں کہ:

”امام مہدیؑ کے بارے میں اس حدیث کے لیے اس کا کوئی متابع موجود نہیں اور نہ ہی یہ حدیث اس کے علاوہ کسی اور سے مشہور ہے البتہ اس سند کے علاوہ امام مہدیؑ کے بارے میں بہت سی جید احادیث وارد ہیں۔“

اسی طرح زیاد بن بیان الرقی کی سوانح حیات لکھتے ہوئے بھی کہا ہے کہ:  
”امام مہدیؑ کے بارے میں بہت سی صحیح سند والی روایات موجود ہیں۔“

### (۸) علامہ ابن حبانؓ کی تحقیق:

امام ابو حاتم ابن حبانؓ ابستی نے اپنی صحیح میں متعدد ابواب امام مہدیؑ سے متعلق ذکر کر کے ان سے استدلال کیا ہے جس سے ان کے نزدیک بھی ان روایات کا صحیح اور قابل استدلال ہونا معلوم ہوتا ہے۔

### (۹) امام ابو سلیمان خطابیؓ کا بیان:

امام ابو سلیمانی خطابیؓ، حضرت انس بن مالکؓ کی اس حدیث:  
﴿لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَتَقَرَّبَ الزَّمَانُ وَتَكُونُ النِّسْنَةُ  
كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالجَمْعَةِ﴾ (الحدیث)

پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”سال کا مہینے کے برابر اور مہینے کا جمعہ کے برابر ہونا امام مہدیؑ کے زمانے میں ہو گا یا حضرت علیؑ علیہ السلام کے زمانے میں یا پھر دونوں کے زمانے میں ہو گا۔“

## (۱۰) امام زین العابدینؑ کی رائے:

امام زین العابدینؑ احادیث مہدیؑ پر یوں تبصرہ نگاری فرماتے ہیں:  
 ”امام مہدیؑ کے ظہور سے متعلق وضاحت احادیث میں یقینی طور پر  
 صحت کے ساتھ ثابت ہے اور یہ صحت سند کے اعتبار سے بھی ہے،  
 نیز ان احادیث میں یہ بھی بیان ہے کہ امام مہدیؑ حضور ﷺ کی  
 اولاد میں سے ہوں گے۔“ (کتاب البرہان: ج ۱ ص ۳۳۲۶۳۳۰)

یہ چند علماء کرام کے قول آپ کے سامنے مشتمل اذنمونہ خروارے کے طور پر  
 پیش کیے گئے ہیں اور ابھی اس سے زیادہ پیش کیے جاسکتے ہیں لیکن بخوب طوالت انہیں  
 ترک کیا جاتا ہے۔

اب یہاں امام مہدیؑ کے بارے میں تصنیف شدہ کتابوں کی اجمالی فہرست  
 بھی ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

﴿وَهُوَ كَتَابٌ مِّنْ جِنْ مِنْ ضَمَنًا اِنَّمَا اِنَّمَادِيَ كَا تَذَكِرَهُ آتِيَاهُ﴾

(۱) المصنف لعبدالرزاق	اس میں گیارہ احادیث مہدی ہیں۔
(۲) كتاب الفتن	یہ سب سے زیادہ قدیم اور وسیع مأخذ ہے جس میں احادیث مہدیؑ کثرت سے موجود ہیں۔
(۳) الجامع للترمذی	اس میں تین احادیث مروی ہیں۔
(۴) المصنف لابن ابی شیبة	اس میں سولہ روایات ہیں۔
(۵) سنن ابن ماجہ	اس میں سات احادیث مروی ہیں۔
(۶) سنن ابی داؤد	اس میں تیرہ احادیث مروی ہیں۔

جبکہ بخاری اور مسلم میں امام مہدی کا نام لیے بغیر کچھ احادیث ذکر کی گئی ہیں  
 جس کی تفصیل قارئین آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

## ﴿امام مہدیؑ کے بارے میں مستقل تصانیف﴾

نمبر شمار	مصنف کا نام	کتاب کا نام
(۱)	ابن ابی خثیمہ بن زہیر بن حربؓ	بقول سہیلی کے انہوں نے اس موضوع کی احادیث کو جمع کیا تھا۔
(۲)	ابو الحسین احمد بن جعفر بن المناوی	علامہ ابن حجرؓ نے ان کے رسائلے کا ذکر کیا ہے۔
(۳)	ابو نعیم احمد بن عبد اللہ سیوطی نے "اربعین" ذکر کیا ہے۔	ابن قیم نے ان کی کتاب کا نام "كتاب المهدی" اور "اصبهانی"
(۴)	یوسف بن یحییٰ الصلحی الشافعی	عقد الدر فی اخبار المهدی المنتظر.
(۵)	امام ابن کثیر	الفتن والملاحم میں انہوں نے اپنے رسائلے کا ذکر کیا ہے۔
(۶)	علامہ سخاویؓ	بقول عجلونی کے اس کتاب کا نام "ارتقاء العرف" ہے۔
(۷)	علامہ سیوطیؓ	العرف الوردي فی اخبار المهدی.
(۸)	ابن کمال پاشا حنفی	تلخیص البيان فی علامات مهدی آخر الزمان.
(۹)	محمد بن طولون الدمشقی	المهدی الى ماورد فی المهدی
(۱۰)	ابن حجر یتمیؓ	القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر.

(۱۱)	شیخ علی مقنی ہندیٰ	كتاب البرهان فى علامات مهدی آخر الزمان.
(۱۲)	ملا علی قاریٰ	المشرب الوردي في مذهب المهدى.
(۱۳)	ابن بريدة	يقول ابن مناوي كے اس رسالے کا نام "العواصم من الفتن القواسم" ہے۔
(۱۴)	مرعى بن يوسف الكرمي	فوائد الفكر في الإمام المهدى المنتظر.
(۱۵)	محمد بن اسماعيل الامير	ان کی کتاب کا ذکر نواب صدیق حسن خان نے کیا ہے۔
(۱۶)	قاضی شوکانی	التوضیح فی توادر ماجاء فی المهدی المنتظر والدجال والمسیح
(۱۷)	شہاب الدین طواني	القطر الشهیدی فی اوصاف المهدی.
(۱۸)	محمد بن محمد البصیری	انہوں نے امام طواني کی نمکورہ کتاب کی شرح بنام "العطر الوردى" لکھی۔
(۱۹)	ابوالعلاء ادریس العراقی	يقول کتابی کے ان کا بھی امام مهدیٰ کے بارے میں ایک رسالہ ہے۔
(۲۰)	شیخ مصطفیٰ بکری	الهداية الندية للإمام المهدی فيما جاء في فضل الذات المهدیة.
(۲۱)	محمد بن عبد العزیز مانع	تحقيق النظر في اخبار الإمام المنتظر.
(۲۲)	رشید راشد الحسني	تنوير الرجال في ظهور المهدی والدجال.
(۲۳)	احمد بن محمد بن صدیق	المرشد المبدی لفساد طعن ابن خلدون في احادیث المهدی.

<p>الرد على من كذب بالاحاديث الصحيحة الواردة في المهدى.</p>	<p>عبد الحسن العباد</p>	<p>(٢٢)</p>
<p>الاحاديث الواردة في المهدى في ميزان الجرح والتعديل.</p>	<p>شيخ عبدالعليم عبد العظيم</p>	<p>(٢٥)</p>
<p>النجم الثاقب في بيان ان المهدى من اولاد علي بن ابي طالب.</p>	<p>.....</p>	<p>(٢٦)</p>
<p>رسالة في المهدى (ملخصا از كتاب البرهان ج ١ ص ٣٣٧ تا ص ٣٥٨)</p>	<p>.....</p>	<p>(٢٧)</p>
<p>مؤخرة الظنون عن ابن خلدون . وغيره.</p>	<p>مولانا اشرف علی تھانوی</p>	<p>(٢٨)</p>

## ﴿امام مہدیؑ افضل یا شیخین؟﴾

حضرت امام مہدیؑ کے متعلق علامہ ابن سیرینؓ کے اس قول کی حقیقت بھی معلوم کر لینا ضروری ہے جس میں انہوں نے حضرت امام مہدیؑ کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما پر فضیلت دی ہے چنانچہ قیم بن حمادانؓ کے اس قول کو اس طرح نقل کرتے ہیں:

﴿عَنْ أَبْنَى سِيرِينَ قِيلَ لِهِ الْمَهْدِيُّ خَيْرٌ وَأَبْوَبَكْرٌ وَعُمَرٌ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؟ قَالَ هُوَ أَخْيَرُ مِنْهُمَا وَيُعَدُّ بَنِي﴾

(کتاب المتن: ص ۲۵۰)

”علامہ ابن سیرینؓ سے پوچھا گیا کہ امام مہدیؑ زیادہ بہتر ہیں یا

حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما؟ تو ابن سیرین نے کہا کہ امام مہدیؑ

ان دونوں سے زیادہ بہتر ہیں اور نبی کے برابر ہیں“

اس قسم کی دو روایتیں علامہ سیوطیؓ نے بھی الماوی للغتاوی (ج ۲ ص ۹۲) پر نقل

فرمائی ہیں جن میں سے ایک روایت تو ضرہ کی سند سے ابن سیرین سے یوں منقول ہے  
کہ انہوں نے ایک مرتبہ فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاجْلِسُوا فِي بَيْوَنَكْمَ حَتَّى تَسْمَعُوا عَلَى

النَّاسِ بِخَيْرٍ مِّنْ أَبْنَى بَكْرٍ وَعُمَرٍ، قِيلَ أَفْيَاتِي خَيْرٌ مِّنْ أَبْنَى بَكْرٍ

وَعُمَرٍ؟ قَدْ كَانَ يَفْضُلُ عَلَى بَعْضٍ﴾ (الماوی للغتاوی: ج ۲ ص ۲۹)

”جب فتنوں کا زمانہ آجائے تو تم اپنے گروں میں بیٹھ جانا یہاں

تک کہ تم حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے زیادہ بہتر آدمی کے

آنے کی خبر کا سن لو (پھر باہر نکلا) لوگوں نے پوچھا کہ کیا حضرت

ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بھی افضل کوئی شخص آئے گا؟ فرمایا کہ وہ

تو بعض انبیاء پر فضیلت رکھتا ہوگا۔“

اس روایت کے الفاظ میں کچھ کم معلوم ہوتی ہے، غالباً کتابت کی غلطی ہے کیونکہ ”افیاتی خیر من ابی بکر و عمر؟“ کے بعد ”قال“ کالفظ ہونا چاہیے جو ابن سیرین کے جواب پر دلالت کرے، پھر ”قد کان“ میں زیادہ صحیح ”قد کاد“ معلوم ہوتا ہے کیونکہ علامہ ابن حجر کی اپنی کتاب ”القول الخقر فی علامات المهدی المفترض“ ص ۱۷ پر ”کاد“ کا لفظ ہی تحریر فرماتے ہیں اسی طرح لفظ ”بعض“ کے بعد ”الانباء“ کا لفظ بھی ہونا چاہیے جیسا کہ علامہ ابن حجر کی ”مذکورہ صدر کتاب“ میں یہ لفظ موجود ہے۔ علامہ سیوطی نے دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے نقل کی ہے جس میں ابن سیرین کا قول یوں نقل کیا گیا ہے:

**﴿لَيْكُونَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيفَةً لَا يَفْضُلُ عَلَيْهِ أَبُوبَكَرٌ وَلَا  
عُمَرٌ﴾** (المادی: ج ۹۳ ص ۲)

”اس امت میں ایک خلیفہ ہوگا جس پر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بھی فضیلت نہ ہوگی۔“

اس موقع پر یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ اولاً تو علامہ ابن سیرین کا اپنا قول ہے، کتب حدیث و اشراط ساعہ میں علامہ ابن سیرین (اور غالباً ایک اور بزرگ) کے علاوہ کسی اور سے اس قسم کا قول منقول نہیں۔ ثانیاً یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کے ایک راوی یحییٰ بن الیمان کو محدثین کرام نے ضعیف قرار دیا ہے مالاً یہ کہ اگر اس قول کو صحیح تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس میں ایسی تاویل کی جائے گی جس سے علامہ ابن سیرین کا قول بھی درست ہو جائے اور صحیح احادیث کے ساتھ تعارض بھی نہ آئے چنانچہ مختلف علماء کرام نے اس قول کی مختلف توجیہات ذکر کی ہیں۔

### **﴿علامہ سیوطی کا جواب﴾**

علامہ سیوطی نے مذکورہ صدر دونوں روایتوں کو نقل کر کے اپنا تبصرہ یوں تحریر فرمایا

”میرے نزدیک ان دونوں حدیثوں کی وہی تاویل کی جائے گی جو اس حدیث کی کی جاتی ہے کہ حضور ﷺ نے صحابہ کرامؐ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آخری زمانے میں نیک عمل کرنے والے کے لیے تم میں سے پچاس کے برابر اجر و ثواب ہو گا۔ یعنی فتنوں کی شدت اور کثرت کی وجہ سے پچاس کے برابر اجر ملے گا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اخیر زمانے کے مسلمان، صحابہ کرامؐ سے بڑھ جائیں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اسی طرح امام مہدیؑ کو شیخینؐ سے افضل قرار دینا اس وجہ سے ہے کہ امام مہدیؑ کے زمانے میں فتنوں کی شدت ہو گی چنانچہ ایک طرف توروی حملہ آور ہونے کے لیے پرتوں رہے ہوں گے اور دوسری طرف دجال ان کا محاصرہ کیے ہو گا، اس سے وہ فضیلت ہرگز مراد نہیں جو زیادہ ثواب اور بلندی درجہ کی طرف لوٹتی ہے اس لیے کہ صحیح احادیث اور اجماع اس بات پر دال ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، انبیاء و مرسیین کے بعد پوری مخلوق سے افضل ہیں۔

(الحاوی للبغدادی: ج ۲ ص ۹۲)

### ﴿علامہ ابن حجر یتیمی مکیؒ کا جواب﴾

علامہ سیوطیؒ کے اس جواب کو علامہ ابن حجر یتیمیؒ نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور آخر میں تحریر فرمایا ہے:

”امام مہدیؑ کی افضليت اور ثواب کا اضافہ ایک امرِ نئی ہے اس لیے کہ بھی کبھار مفضول میں کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو افضل میں نہیں ہوتیں اسی وجہ سے تو طاؤس نے امام مہدیؑ کا زمانہ پانے کی تمنا کی ہے اس لیے کہ امام مہدیؑ کے زمانے میں نیک کام

کرنے والے کو زیادہ ثواب ملے گا اور گناہ گار کو توبہ کی توفیق ہو گی۔..... اخ” (القول الخصوصی علامات المهدی المختصر ص ۱۷)

### علامہ سید محمد بزرنجی کا جوب

سید بزرنجی، علامہ سیوطی کی تحقیق نقل کرنے کے بعد اپنی تحقیق یوں رقم فرماتے

ہیں:

”تحقیقی بات یہ ہے کہ باہمی فضیلت کی جہات مختلف ہو سکتی ہیں اس لیے ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم کسی ایک فرد کو مطلق فضیلت دیں یہاں! اگر حضور ﷺ کسی کو کلی فضیلت دے دیں تو اور بات ہے ورنہ درست نہیں، کیونکہ ہر مفضول میں کسی نہ کسی جہت سے کوئی ایسی اضافی چیز پائی جاتی ہے جو افضل میں نہیں ہوتی.....“ اخ (الاشاعر: ص ۲۳۸)

علوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو اگرچہ صحبت نبوی، مشاہدہ و حج اور سبقت اسلام کی وجہ سے امام مهدی پر فضیلت حاصل ہے اور امام مهدی ان سے کم درجے کے ہیں لیکن کچھ مخصوص صفات ان میں بھی ہیں جو شیخین میں نہیں اس لیے علامہ ابن سیرین نے انہیں شیخین سے بہتر قرار دیا ہے۔

طاعلی قاری نے اپنی کتاب ”المشرب الوردي في مدح المهدی“ میں تحریر فرمایا

ہے کہ:

”امام مهدی کی افضیلت پر یہ چیز بھی دلالت کرتی ہے کہ حضور ﷺ نے ان کو ”خلیفۃ اللہ“ فرمایا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زیادہ سے زیادہ ”خلیفۃ رسول اللہ“ کہا جاتا ہے۔“

(الاشاعر: ص ۲۳۸)

یہ بات تو آپ کے علم میں ہو گی کہ اگر کسی کو کسی پر کوئی جزوی فضیلت حاصل ہو

جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس پر مکمل فضیلت پالے گا ورنہ دنیا میں کوئی افضل، افضل نہیں رہے گا اور کوئی مفضول، مفضول نہیں رہے گا۔

رہا علامہ ابن سیرین کا یہ کہنا کہ ”مہدی تو بعض انبیاء کے درجے کے قریب پہنچنے والے تھے۔“ اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء کریں گے اور یہ امام ہوں گے اور امام، مقتدی سے افضل ہوتا ہے اس لیے امام مہدی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ جزوی فضیلت حاصل ہو گئی لیکن یہ کوئی مضبوط دلیل نہیں کیونکہ حضور ﷺ نے بھی تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے تو کیا اس وجہ سے حضرت ابو بکر اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما حضور ﷺ سے افضل ہو گئے؟ ظاہر ہے کہ یہ قول کسی نے اختیار نہیں کیا اسی طرح امام مہدی کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کلی فضیلت حاصل نہیں ہے۔

## باب دوم

# حضرت امام مہدیؑ کا نام و نسب

محمد بن عبد اللہ، حسنی یا حسینی، حضرت عباسؑ کی اولاد میں سے؟ لقب  
اور کنیت، جائے پیدائش، سیرت اور حلیہ مبارکہ

## ﴿حضرت امام مہدیؑ کا نام و نسب﴾

حضرت امام مہدیؑ کا نام:

حضرت امام مہدیؑ کے نام و نسب کے سلسلے میں مستند روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا نام حضور ﷺ کے نام کے مشابہ ہو گا اور ان کے والد کا نام حضور ﷺ کے والد کے نام جیسا ہو گا چنانچہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿المهدی یواطئ اسمه اسمی، واسم ابیه اسم ابی﴾

(کتاب المختصر: ص ۲۶۰)

”مہدی کا نام میرے نام کے موافق ہو گا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے جیسا ہو گا۔“

اسی طرح مکلوة شریف میں ترمذی اور ابو داؤد کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے:

﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ لَا تَذَهَّبُ الدُّنْيَا حَتَّى يُمْلِكَ الْعَرَبُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُوَاطِئُ اسْمَهُ اسْمِي رَوَاهٌ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو داؤُدُ﴾

(مکلوة المصانع: ص ۲۷۰)

”حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہو گی جب تک کہ میرے گھر والوں میں سے ایک شخص، جس کا نام میرے نام کے موافق ہو گا، پورے عرب کا مالک نہ ہو جائے۔“

اس روایت میں صرف اتنا ذکر ہے کہ حضرت امام مہدیؑ کا نام حضور ﷺ

کے نام جیسا ہوگا، ان کے والد گرامی کے نام کا تذکرہ نہیں ہے جبکہ ابو داؤد کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں:

﴿لَوْلَمْ يَقِنَ الْدُّنْيَا إِلَّا يَوْمَ لَطُولَ اللَّهِ ذَلِكَ الْيَوْمُ  
حَتَّىٰ يَعْثُرَ اللَّهُ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُواطِئَ  
اسْمِهِ اسْمِي وَاسْمِ ابِيهِ اسْمِ ابِي يَمْلأُ الْأَرْضَ قُسْطَابَ  
عَدْلًا كَمَا ملئتَ ظُلْمًا وَجُورًا﴾ (مکملۃ المصالح: ص ۲۷۰)

”اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رائج جائے (اور مہدیؑ نہ آئے) تو اللہ تعالیٰ اسی دن کو اتنا ملبہ کر دیں گے کہ اس میں مجھ سے یا (فرمایا کہ) میرے گھروں میں سے ایک آدمی کو بھیجیں گے جس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔“

اسی طرح امام قرطبیؓ نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت نقل کی ہے۔

﴿ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِلَا يَا تَصِيبَ هَذِهِ الْأَمَةَ حَتَّىٰ لا  
يَجِدَ الرَّجُلُ ملْجَأً يَلْجَا إِلَيْهِ مِنَ الظُّلْمِ فَيَعْثُرَ اللَّهُ رَجُلًا  
مِنْ عَتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي فَيَمْلأُ الْأَرْضَ قُسْطَابَ وَعَدْلًا كَمَا  
ملئتَ جُورًا وَظُلْمًا﴾ (الذکرہ: ص ۷۰۰)

نیز امام قرطبیؓ ہی نے امام ترمذیؓ کے حوالے سے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی یہ روایت بھی نقل کی ہے:

﴿لَوْلَمْ يَقِنَ الْدُّنْيَا الْيَوْمَ. قَالَ زَيْنُ الدِّينَ فِي حَدِيثِهِ لَطُولَ اللَّهِ  
ذَلِكَ الْيَوْمُ حَتَّىٰ يَعْثُرَ فِيهِ رَجُلًا مِنْ أَمْتَىٰ أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي  
يُواطِئَ اسْمِهِ اسْمِي وَاسْمِ ابِيهِ اسْمِ ابِي. خَرْجَهُ التَّرْمذِيُّ  
بِمَعْنَاهُ وَقَالَ حَدِيثُ حَسَنٍ صَحِيحٍ﴾ (الذکرہ: ص ۷۰۰)

اسی سلسلے کی ایک اور روایت مالا علی قاریؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے بحوالہ ابن ماجہ مرفوعاً نقل کی ہے۔

﴿لوله يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يملک رجل من اهل بيته يملك جبال الديلم والقسطنطينية﴾ (مرقاۃ المفاتیح: ج ۱۰ ص ۱۷۲)

”اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی نہیں جائے (اور مہدیؑ نہ آئے) تو اللہ تعالیٰ اسی دن کو لمبا کر دیں گے یہاں تک کہ میرے گھروالوں میں سے ایک آدمی دیلم اور قسطنطینیہ کے پہاڑوں کا مالک ہو جائے۔“

ان مذکورہ روایات پر ایک طالب علمانہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ ان تمام احادیث میں ”رجل“ یا ”رجال“ کا لفظ ہے جو کہ نکرہ ہے، کسی معین شخص پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا پھر اس سے امام مہدیؑ کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب حضرت مولانا سید محمد بدرا عالم مہاجر مدینیؒ کی زبانی ملاحظہ ہو، حضرتؒ نے صحیح مسلم کے حوالے سے امام مہدیؑ کی صفات ذکر کرنے کے بعد تجویز کے طور پر تحریر فرمایا ہے کہ:

”یہ تمام صفات ان صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں جن میں محدثین کو کوئی کلام نہیں۔ اب گفتگو ہے تو صرف اتنی بات میں ہے کہ یہ خلیفہ کیا امام مہدیؑ ہیں یا کوئی اور دوسرا خلیفہ؟ دوسرے نمبر کی حدیثوں میں یہ تصریح موجود ہے کہ یہ خلیفہ امام مہدیؑ ہوں گے، ہمارے نزدیک یہ صحیح مسلم کی حدیثوں میں جب اس خلیفہ کا تذکرہ آچکا ہے تو پھر دوسرے نمبر کی حدیثوں میں جب وہی تفصیلات اس کے نام کے ساتھ مذکور ہیں تو ان کو بھی صحیح مسلم ہی کی حدیثوں کے حکم میں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ امام

مہدیؑ کا ثبوت خود صحیح مسلم میں موجود ہے تو اس کی گنجائش ہے۔“

(ترجمان السنۃ: ج ۳ ص ۳۲۸)

بہر حال! مذکورہ بالاروایات سے اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ حضرت امام مہدیؑ کا نام، حضور ﷺ کے نام کی طرح ”محمد“ ہو گا اور ان کے والد کا نام حضور ﷺ کے والد کے نام کی طرح ”عبداللہ“ ہو گا البتہ ان کی والدہ کے نام کے سلسلے میں کوئی روایت نہیں ملی، علامہ سید زنجیؒ نے بھی اپنی کتاب ”الاشاعتہ لاشراط الساعۃ“ میں یہی تحریر فرمایا ہے کہ ”تلash کے باوجود مجھے آپ کی والدہ کا نام روایات میں کہیں نہیں ملا۔“ (الاشاعتہ: ص ۲۰۵)

لیکن حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ اور مولانا بدر عالمؒ نے بھی بحوالہ شاہ رفع الدینؒ کے امام مہدیؑ کی والدہ کا نام ”آمنہ“ تحریر فرمایا ہے چنانچہ حضرت کاندھلویؒ نے ”ظہور مہدیؑ“ کے عنوان کے تحت تحریر فرمایا ہے۔

”اس کا نام محمد اور اس کے باپ کا نام عبد اللہ اور ماں کا نام آمنہ ہو گا۔“ (عقائد الاسلام اول: ص ۶۲)

اور حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب تحریر فرماتے ہیں:

”آپ کا اسم شریف محمد، والد کا نام عبد اللہ، والدہ صاحبہ کا نام آمنہ ہو گا۔“ (ترجمان السنۃ: ج ۳ ص ۳۲۲)

اس موقع پر یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا نام ”محمد بن عبد اللہ“ حدیث میں وارد نہیں بلکہ حدیث میں فقط اتنا ہے کہ ان کا نام حضور ﷺ کے نام کے مشابہ ہو گا اور ظاہر ہے کہ حضور ﷺ کے دونام قرآن کریم میں صراحت بیان کیے گئے ہیں۔

(۱) محمد ..... پورے قرآن میں چار مرتبہ استعمال ہوا۔

(۲) احمد ..... پورے قرآن میں ایک مرتبہ استعمال ہوا۔

اس لیے اب یہ کہا جائے گا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا نام محمد بن عبد اللہ ہو گا یا احمد بن عبد اللہ۔

## ﴿حضرت امام مہدیؑ کا نسب﴾

حضرت محمد بن عبد اللہ المہدیؑ جو کہ نام اور کام دونوں میں حضور ﷺ کے مشابہوں گے، جیسا کہ آئندہ تفصیل سے یہ بات آپ کے سامنے آئے گی، حضور ﷺ کی اولاد میں سے ہوں گے اور اولاد بھی اس کی جس کو "سیدۃ نساء الْجَنَّۃ" کا خطاب دیا گیا ہے چنانچہ نعیم بن حماد نے قادہ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن الحسینؑ سے پوچھا۔

قادہ: کیا امام مہدیؑ کا ظہور برحق ہے؟

سعید: ہاں! برحق ہے!

قادہ: وہ کن میں سے ہوں گے؟

سعید: قریش میں سے!

قادہ: قریش کے کون سے خاندان میں سے ہوں گے؟

سعید: بنو هاشم میں سے!

قادہ: بنو هاشم کے کون سے خاندان میں سے ہوں گے؟

سعید: بن عبدالمطلب میں سے!

قادہ: عبدالمطلب کی کون سی اولاد میں سے ہوں گے؟

سعید: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے!

(کتاب الفتن: ص ۲۶۱)

ای طرح حضرت امام مہدیؑ کے نسب کے سلسلے میں نعیم بن حماد ہی نے

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ذکر کی ہے:

﴿عَنْ عَلَىٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ الْمَهْدِيِّ مَنَا إِنَّمَةُ الْهَدِيِّ إِمَّا مَنْ غَيْرَنَا؟ قَالَ بَلْ مَنَا،

بَنِيَّاْخْتَمُ الدِّينَ كَمَا بَنَافَتْهُ، وَبَنِيَّاْسْتَنْقَذُونَ مِنْ ضَلَالَةِ

الفتنة كما استنقذوا من ضلاله الشرك، وبناءً يؤلف الله  
بين قلوبهم في الدين بعد عداوة الفتنة كما الف الله بين  
قلوبهم ودينهم بعد عداوة الشرك.“)

(كتاب الفتن: ص ۲۶۲، كتاب البر بان: ج ۲ ص ۵۷۳)

”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مہدی ہم ائمہ ہدایت میں سے ہوں گے یا ہمارے علاوہ کسی اور خاندان سے؟ تو حضور ﷺ نے فرمایا نہیں! بلکہ وہ ہم میں سے ہوں گے، اور جس طرح دین کی ابتداء ہم سے ہوئی ہے اسی طرح اختتام بھی ہم پر ہی ہوگا، اور ہماری ہی وجہ سے لوگ فتنہ کی گمراہیوں سے نجات پائیں گے جس طرح کہ شرک کی گمراہی سے انہوں نے ہماری وجہ سے نجات پائی، نیز ہمارے ہی ذریعہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں فتنہ کی عداوت کے بعد اسی طرح دینی الفت پیدا فرمادیں گے جس طرح شرک کی عداوت کے بعد ان کے دلوں میں دینی الفت پیدا فرمائی۔“

اس طرح حضرت ابوسعید خدریؓ سے امام مہدیؓ کے نسب کے سلسلے میں مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿هو من عترتي﴾ (كتاب الفتن: ص ۲۶۲)

”وہ میری اولاد میں سے ہوگا۔“

جبکہ حضرت ام سلمہؓ کی روایت میں ”المهدی من عترتی“ کے الفاظ ہیں۔ اور حضرت ام سلمہؓ کی ایک روایت میں ”المهدی من ولد فاطمة“ کے الفاظ بھی ہیں۔ (ابن ماجہ: ۳۰۸۶)

## ﴿لفظ "عترت" کی تحقیق﴾

اس سے قبل بھی "عترت" کا لفظ گزرا ہے اور یہاں بھی آیا ہے اس کی تشرع محدث شہیر ملا علی قاریؒ کی زبانی ملاحظہ ہو:

﴿قال بعض الشرح العترة ولد الرجل من صلبه وقد تكون العترة الاقرباء ايضاً وهي العمومة قلت المعنيان لا يلامان بيانه بقوله "من اولاد فاطمة رضي الله عنها" وفي النهاية عترة الرجل اخص اقاربه وعترة النبي ﷺ بنو عبد المطلب وقيل قريش كلهم المشهور المعروف انهم الذين حرمت عليهم الزكوة اقول المعنى الاول هو المناسب للمرام وهو لا ينافي ان يطلق على غيره بحسب ما يتضمنه المقام وقيل عترته اهل بيته لخبر ورد وقيل ازواجها وذريتها وقيل اهله وعشيرته الاقربون وقيل نسله الادنوون وعليه اقصر الجوهرى قلت وهو الذى ينبغي هنا ان عليه يقتصر ويختصر﴾ (مرقاۃ: ج اص ۱۷۵، ۱۷۳)

"بعض شارحين نے کہا ہے کہ "عترة" انسان کی صلبی اولاد کو کہتے ہیں اور کبھی اس کا اطلاق قریبی رشتہ داروں مثلاً بچا زاد وغیرہ پر بھی ہوتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں معنی حضور ﷺ کے ارشاد کے "وَهُوَ فَاطِمَةُ كُلِّ أُولَادٍ مِّنْ سَعَيْهُ" کے مناسب نہیں، نہایہ میں ہے کہ "عترة" انسان کے خاص قریبی رشتہ داروں کو کہتے ہیں اور جب یہ لفظ حضور ﷺ کے لیے استعمال ہو تو اس سے مراد بنی عبد المطلب ہوں گے اور ایک قول یہ ہے کہ سارے قریش مراد ہوں گے اور مشہور و معروف قول یہ ہے کہ "عترة" سے وہ لوگ مراد ہیں

جن پر زکوٰۃ لینا حرام کر دیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں پہلا معنی ہی مقصود کے مناسب ہے اور یہ اس بات کے منافی نہیں کہ مقام کے اعتبار سے لفظ ”عترة“ سے مراد اہل بیت نبوی ہیں ٹھوائے حدیث، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے آپ کی ازواج و اولاد مراد ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے آپ کے اہل و عیال اور قریبی رشتہ دار مراد ہیں اور آخری قول یہ ہے کہ اس سے آپ کی قریبی نسل مراد ہے اور جو ہری نے اسی پر اکتفاء کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس مقام پر یہی قول اختیار کرنے پر اکتفاء کرنا بہتر اور مناسب ہے۔“

گویا لفظ ”عترت“ کی تحقیق میں نواقوٰل ہیں جن میں سے حسب بیان جو ہری اور اعتماد ملا علی قارئی آخري معنی زیادہ راجح ہے یعنی آپ کی قریبی نسل۔

واللہ اعلم بالصواب۔

اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿المهدی من اهل الیت یصلحه اللہ فی لیلۃ﴾ (ابن ماجہ: ۲۸۰)

”مہدی ہمارے گھر والوں میں سے ہوں گے جن کی اصلاح اللہ

تعالیٰ ایک رات میں کر دیں گے“

جبکہ کتاب الفتن ص ۲۵۵ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یوں ہیں:

﴿المهدی یصلحه اللہ تعالیٰ فی لیلۃ واحده﴾

یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ظہور سے قبل حضرت امام مہدیؑ میں کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی جو ان کے منصب ولایت کے مناسب نہیں ہوں گی اس لیے اللہ تعالیٰ ظہور سے قبل ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرمائیں گے اس امر عظیم کے لیے تیار کر دیں گے۔

## ﴿حضرت امام مہدیؑ حسنی ہوں گے یا حسینی؟﴾

مذکورہ بالاقریر سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا نام نبی محمد بن عبد اللہ یا احمد بن عبد اللہ ہو گا اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ حضرت حسنؑ کی اولاد میں سے ہوں گے یا حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے؟ سواس سلسے میں اختلاف ہے، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ حضرت حسنؑ کی اولاد میں سے ہوں گے زکر حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے، چنانچہ بذل الحجود: ج ۵ ص ۱۰۲ کے حاشیے پر یہ مرقوم ہے:

﴿وَحَكَى الدِّمْنَتِيُّ فِي حَوَاشِيهِ نَفِي كَوْنَهُ مِنْ أَوْلَادِ

الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا فِي الْمَرْجَاتِ﴾

”دُمْنٌ نے اپنے حواشی میں امام مہدیؑ کے حضرت حسینؑ کی اولاد سے ہونے کی نفی بیان کی ہے جیسا کہ کتاب درجات میں ہے“

اسی طریقے حضرت کائد حلومنیؑ نے فیض القدر لمناولی ج ۲۹ ص ۲۷۹ کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے:

﴿وَمَا رُوِيَ مِنْ كَوْنَهُ مِنْ أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ فَوَاهْ جَدًا﴾

(تعلیق الصیغ: ج ۲ ص ۱۹)

”حضرت مہدیؑ کے حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے ہونے کی روایت انتہائی ضعیف ہے۔“

اور بعض دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ امام مہدیؑ حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے ہوں گے اور ان کا مسئلہ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کی وہ روایت ہے جس کو حاکم اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔

﴿يَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ وَلَدِ الْحُسَيْنِ مِنْ قَبْلِ الْمَشْرَقِ، لَوْ

استقبلته الجبال لهدمها واتخذ فيها طرفاً

(کتاب الحسن: ص ۲۲۳)

”حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے مشرق کی طرف سے ایک آدمی نکلے گا، اگر اس کے راستے میں پہاڑ بھی حائل ہو جائیں تو وہ ان کو بھی گرا کر اس میں اپنا راستہ بنالے گا۔“

نیز علامہ سید برزنجمیؒ کی عبارت سے بھی حضرت امام مہدیؑ کے حسینی ہونے کا ثبوت ملتا ہے، انہی کی زبانی ملاحظہ ہو:

﴿وَسِيرَ الْمَهْدَى بِالْجَيُوشِ حَتَّى يَصِيرَ بِوَادِى الْقَرَى، وَهُوَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ إِلَى جَهَةِ الشَّامِ فِي هَدْوَءٍ وَرَفْقٍ وَيَلْحِقُهُ هَنَاكَ أَبْنُ عَمِّهِ الْحَسَنِي فِي اثْنَيْ عَشَرَ الْفَأَوْلَى. فَيَقُولُ لَهُ يَا أَبْنَ عَمِّا أَنَا أَحْقَ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْكَ أَنَا أَبْنَ الْحَسَنِ وَأَنَا الْمَهْدَى فَيَقُولُ لَهُ الْمَهْدَى بَلْ أَنَا الْمَهْدَى فَيَقُولُ الْحَسَنِي هَلْ لَكَ مِنْ آيَةٍ فَابْعِدْكَ؟ فَيُومَ الْمَهْدَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الطَّيْرِ فَيَسْقُطُ عَلَى يَدِيهِ وَيَغْرِمُ قَضِيَّاً يَابِسَا فِي بَقْعَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فِي خَضْرَوْ يُورَقْ، فَيَقُولُ الْحَسَنِي يَا أَبْنَ عَمِّي! هَى لَكَ﴾ (الاشاعر: ص ۲۱۰)

”اور امام مہدیؑ اپنی افواج کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ”وادیٰ قری“ تک جا پہنچیں گے۔ ”جو کہ مدینہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے دو مرحلوں کے فاصلے پر ہے۔“ وہاں انہیں ان کے پچازاد حسنسی بھائی بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ ملیں گے اور کہیں گے کہ میں چونکہ حضرت حسنؑ کا بیٹا اور مہدی ہوں اس لیے اس امر (خلافت) کا تم سے زیادہ حق دار ہوں، امام مہدیؑ کہیں گے کہ نہیں! مہدی تو میں ہوں، حسنسی کہیں گے کہ آپ کے پاس کوئی نشانی بھی

ہے جس کو دیکھ کر میں آپ کی بیعت کروں؟ اس پر امام مہدیؑ ایک پرنڈے کی طرف اشارہ کریں گے، وہ ان کے سامنے آگرے گا اور ایک خشک بانس زمین کے ایک حصے میں گاڑ دیں گے وہ اسی وقت سر بزہ ہو جائے گا اور برگ وبارلانے لگے گا، یہ دیکھ کر حسنی کہیں گے کہ اے میرے چچازاد بھائی! یہ آپ کا ہی حق ہے۔“

معلوم ہوا کہ حضرت امام مہدیؑ حسینی ہوں گے نہ کہ حسنی اور ماقبل میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ امام مہدیؑ حسنی ہوں گے۔ اب اس کا فیصلہ حضرت ماعلیٰ قاریؒ کی زبانی ملاحظہ ہو۔

﴿وَخَتَّالَفَ فِي أَنَّهُ مِنْ بَنِي الْحَسْنَى أَوْ مِنْ بَنِي الْحُسَيْنِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ جَامِعَابِينَ النِّسْبَتَيْنِ الْحَسْنَى وَالظَّاهِرِيِّينَ أَنَّهُ مِنْ جَهَةِ الْأَبِ حَسَنَى وَمِنْ جَانِبِ الْأُمِّ حُسَيْنَى﴾

(مرقاۃ المفاتیح: ج ۱۰ ص ۲۷۳)

”اور اس بات میں اختلاف ہے کہ امام مہدیؑ حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے ہوں گے یا حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دونوں کی تسبیت کو جمع کیے ہوئے ہوں گے اور اس میں ظاہر ترین بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے۔“

تقریباً یہی بات بذل الجھود فی حلابی داؤ دج ۵ ص ۱۰۲ پر اور تعلیق الصیح ج ۲ ص ۱۹۶ پر بھی مذکور ہے۔ اور حضرت کاندھلویؒ نے اس کی تائید میں طبرانی کی روایت بھی پیش کی ہے جو اگرچہ ضعیف ہے لیکن تابع کی وجہ سے اس کا ضعف رفع ہو جاتا ہے اور وہ روایت یہ ہے:

﴿اَخْرَجَ اَبُو نَعِيمَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ وَالَّذِي بَعْثَنِي بِالْحَقِّ اَنَّ مِنْهُمَا يَعْنِي الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ﴾

مہدی من ولد العباس عمیٰ ﴿اعلین لصیح: ج ۶ ص ۱۹۶﴾  
 ”حضور ﷺ نے (ایک مرتبہ) حضرت فاطمہؓ سے فرمایا قسم ہے  
 اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا کہ ان دونوں یعنی  
 حسنؑ اور حسینؑ کی اولاد میں سے مہدی ہوں گے، میرے پچھا عباس  
 کے خاندان میں سے۔“

### ایک عجیب نکتہ:

حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے نجیب الطرفین ہونے پر ملاعی قاریؒ نے  
 بڑا عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے اور وہ یہ کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو  
 صاحزادے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت  
 ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے، جبکہ  
 حضرت اسماعیلؑ کی اولاد میں صرف حضور ﷺ تشریف لائے اور وہ اکیلے ہی ان سب  
 کے قاسم بن گئے اور آپ کی تشریف آوری اولاد اسماعیل کے لیے باعث عزت و  
 شرافت بن گئی اور آپ ﷺ ”خاتم الانبیاء“ تھے، اسی طرح جب اکثر ائمہ اور اولیاء  
 کرام حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے ہوئے تو مناسب تھا کہ حضرت حسنؑ کی اولاد میں  
 سے بھی ایک ایسا شخص آئے جو ان سب کے قاسم بن گیا۔ قرار پائے اس  
 کے لیے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا انتخاب کیا گیا۔

اس موقع پر ملاعی قاریؒ کی عبارت ملاحظہ ہو:

﴿قیاساً علی مَا وَقَعَ فِي وَلْدِ ابْرَاهِيمَ. وَهُمَا اسْمَاعِيلَ  
 وَاسْحَاقَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. حِيثُ كَانَ انبِيَاءُ بَنِي  
 اسْرَائِيلَ كَلَّهُمْ مِنْ بَنِي اسْحَاقَ وَانْمَانِيَّ مِنْ  
 ذُرِيَّةِ اسْمَاعِيلَ نَبِيَّاً عَلَيْهِ سَلَامٌ وَقَامَ مَقَامُ الْكُلِّ وَنَعِمَ الْعَوْضُ  
 وَصَارَ خَاتِمَ الْأَنْبِيَاءَ فَكَذَلِكَ لِمَا ظَهَرَتْ أَكْثَرُ الْإِلَمَةِ﴾

وَاكَابِرُ الْأَمَةِ مِنْ أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ فَنَاسِبُ أَنْ يَنْجِزَ  
الْحُسْنَ بَانَ اعْطَى لَهُ وَلَدٌ يَكُونُ خَاتِمُ الْأُولَيَاءِ وَيَقُومُ  
مَقَامَ سَائِرِ الْأَصْفَيَاءِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ قَيلَ لِمَا نَزَّلَ الْحُسْنَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْخِلَافَةِ الْصُّورِيَّةِ كَمَا وَرَدَ فِي مِنْقَبَتِهِ  
فِي الْأَحَادِيثِ النَّبُوَيَّةِ اعْطَى لَهُ لَوَاءً وَلَاهِيَّ الْمَرْتَبَةِ الْقَطْبِيَّةِ  
فَالْمَنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جَمِيلَتِهِ النَّسْبَةُ الْمَهْدُوَيَّةُ  
الْمَقَارِنَةُ لِلنَّبِيَّ الْعَيْسَوَيَّةِ وَاتِّفَاقُهُمَا عَلَى اعْلَاءِ كُلِّهِ  
الْمَلَةِ النَّبُوَيَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا الْوَفُّ سَلَامٌ وَآلَافُ التَّحْيَةِ ﴿۹﴾

(مرقاۃ الفاتح ج ۱۰ ص ۱۷۲)

اس عبارت میں ملاعلیٰ قاریٰ نے دو وجہیں ذکر فرمائی ہیں، ایک تو وہی جو پیچھے  
بیان ہوئی اور دوسرا یہ کہ حضرت حسینؑ نے خلافت کو رضاخداوندی کی خاطر چھوڑا اور  
اپنے بھائی حضرت حسینؑ کو بھی اس سے روکا جس کے سلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں قطب  
کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمادیا اور ان کی اولاد میں خلافت رکھدی چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت  
حسنؑ کی اولاد میں سے امام مہدیؑ کو خلیفہ بنادیں گے کیونکہ یہ عادة اللہ ہے کہ جو شخص اللہ  
تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے  
بہترین چیز عطا فرمادیتے ہیں۔

لتقریباً یہی بات خاتم المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؑ نے تعلیق  
اصبح ج ۲۶ ص ۱۹۷ پر تحریر فرمائی ہے۔

﴿ کیا امام مہدیؑ حضرت عباسؓ کی اولاد میں سے ہوں گے؟ ﴾

ذکرہ بالا روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امام مہدیؑ، حضرت فاطمہؓ کی  
اولاد سے نجیب الطرفین سید ہوں گے لیکن اس پر حضرت عثمان بن عفانؓ کی روایت سے  
اعتراض لازم آتا ہے جس میں یہ ہے کہ امام مہدیؑ، حضرت عباسؓ کی اولاد میں سے ہوں

گے۔ (کتاب البر بانج ج ۵۹ ص ۵۶، مرقاۃ المفاتیح ج ۱۰ ص ۱۷۵)

اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن حجر یقینی نقشبندی کی تحریر فرماتے ہیں:

﴿وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّهُ لَا مَانِعٌ مِّنْ أَنْ يَكُونَ ذُرِّيَّتَهُ ﴾  
وللتعباس فيه ولادة من جهة ان امهاته عباسية والحاصل  
ان للحسن فيه الولادة العظمى لأن احاديث كونه من  
ذریته اکثر وللحسین فيه ولادة ايضا وللتعباس فيه ولادة  
ایضا ولا مانع من اجتماع ولادات المتعددين في  
شخص واحد من جهات مختلفه﴾ (القول الخضر: ص ۲۳)

”ان مختلف روایات کو اس طرح جمع کرنا ممکن ہے کہ امام مہدیؑ  
(اصالۃ) تو حضور ﷺ کی ذریت میں سے ہوں گے اور (تبعاً)  
حضرت عباسؑ کی اولاد میں سے بھی اس اعتبار سے ہوں گے کہ ان  
کے سلسلہ نسب میں سب سے زیادہ حضرت حسنؑ کی نسبت نمایاں  
ہوگی اس لیے کہ اس قسم کی روایات زیادہ ہیں اس کے بعد حضرت  
حسینؑ اور پھر حضرت عباسؑ کی ولادت بھی اس میں شامل ہوگی اور  
ایک ہی شخص میں مختلف جہات سے متعدد ولادتوں کا جمع ہونا ممکن  
ہے۔“

علامہ ابن حجر یقینی نقشبندی کے اس جواب کو آسان لفظوں میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ ایک آدمی کئی آدمیوں کی اولاد ہو سکتا ہے مثلاً ایک شخص کے سلسلہ نسب میں اس کے آباء اجداد میں سے کسی نے ایک عورت سے نکاح کیا جو مثلاً حضرت عباسؑ کے خاندان میں سے تھی، اس کے یہاں جو اولاد ہوئی اس نے حضرت حسینؑ کے خاندان میں سے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا پھر اس کے یہاں جو اولاد ہوئی اس نے حضرت حسنؑ کے خاندان کے ساتھ مناکحت کا تعلق کر لیا اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرخ نہیں۔ اس طرح امام مہدیؑ کے نسب کی روایات میں کوئی تعارض اور اختلاف باقی نہیں رہتا۔

جبکہ اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے حضرت ملا علی قاری تحریر فرماتے ہیں

﴿وَاهَا مَارِواهُ الدَّارِقَطْنِي فِي الْأَفْرَادِ عَنْ عُشَمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَهْدِيُّ مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ عَمِي فَمَعَ ضَعْفِ اسْنَادِهِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَهْدِيِّ الَّذِي وَجَدَ مِنَ الْخَلْفَاءِ الْعَبَّاسِيَّةِ أَوْ يَكُونُ لِلْمَهْدِيِّ الْمَوْعِدُ إِيْضًا نَسْبَةً إِلَى الْعَبَّاسِيَّةِ﴾ (مرقاۃ الفاتح ج ۱۰ ص ۱۷۵)

”باقی رہی وہ روایات جس کو دارقطنی نے افراد میں حضرت عثمانؓ سے روایت کیا ہے کہ مہدی میرے پچھا عباسؓ کی اولاد میں سے ہوں گے تو اس کی سند ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ روایت خلفاء عباسیہ میں سے خلیفہ مہدی پر محمول ہے یا پھر مہدی موعود کی بھی نسبی طور پر بنو عباس کی طرف نسبت ہوگی۔“

گویا ملا علی قاریؓ نے اس حدیث کے تین جواب دیے ہیں:

- (۱) اس روایت کی سند ضعیف ہے۔
- (۲) اس کا محمل خلیفہ مہدی عباسی ہے۔
- (۳) یہ بھی ممکن ہے کہ مہدی موعود کے نسب نامے میں عباسی خاندان کا کوئی فرد ہو۔

### ﴿حضرت امام مہدیؑ کا لقب اور کنیت﴾

جیسا کہ اس سے قبل یہ بات تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا اسم گرامی محمد بن عبد اللہ یا احمد بن عبد اللہ ہو گا چنانچہ سید بزرگی تحریر فرماتے ہیں:

﴿أَمَا اسْمُهُ فَفِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ مُحَمَّدٌ وَفِي بَعْضِهَا أَنَّهُ

احمد واسمه ابیه عبد اللہؑ﴾ (الاشاعت: ص ۱۹۲)

”حضرت امام مہدیؑ کا نام اکثر روایات میں محمد اور بعض میں احمد ذکور ہے اور ان کے والد کا نام عبد اللہ ہو گا۔“

یہی بات شیخ یوسف بن عبد اللہ الوائل نے اپنی کتاب اشرط الساعة ص ۲۳۹ پر کہی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ”مہدی“ ان کا نام نہیں بلکہ لقب ہو گا اور اس نام کے ساتھ موسوم ہونے کی وجہ یہ ہو گی کہ مہدی، ہدایت سے ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ انہیں حق بات کہنے اور اس کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اس پر ان کی رہنمائی اور دیگری فرمائیں گے اس لیے ان کو ”مہدی“ کہتے ہیں چنانچہ سید بزرگ تحریر فرماتے ہیں:

﴿ولقبه المهدی لانَ اللَّهُ هدَاهُ لِلْحَقِّ، وَالْجَابِرُ لَا نَهِيٌّ﴾

يَجْبَرُ قُلُوبَ أَمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْلَانِهِ يَجْبَرُ إِيَّاَيْهِ مُقْبَرٌ

الْجَارِينَ وَالظَّالِمِينَ وَيَقْصِمُهُمْ﴾ (الاشاعر: ص ۱۹۳)

”ان کا لقب ”مہدی“ ہو گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق کی طرف ان کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اسی طرح ان کا لقب ”جابر“ بھی ہو گا کیونکہ وہ امت محمدیہ کے زخمی قلوب پر مرہم رکھیں گے یا اس لیے کہ وہ طالموں پر غالب آ کر ان کی شان و شوکت کو ختم کر دیں گے۔“

یہ عبارت حضرت امام کے دو لقب ظاہر کر رہی ہے ایک تو وہی جو کہ مشہور و معروف ہے یعنی مہدی، اور دوسرے لقب ”جابر“ ہو گا لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس مقام پر ”جابر“ جس سے نہیں جس کا معنی ظلم ہوتا ہے بلکہ یہاں ”جابر“، ”جبیرہ“ سے ہے جو ثوٹی ہوئی بڑی کو جوڑنے کے لیے استعمال ہونے والی کچھی کو کہتے ہیں۔ چونکہ امام مہدیؑ لوگوں کی تالیف قلب فرمائیں گے اس لیے ان کا لقب ”جابر“ ہو گا۔ یا ان کو ”جابر“ کہنے کی وجہ یہ ہو گی کہ ”جابر“ کا معنی ہے ” غالب“ چونکہ وہ طالموں پر غالب آ جائیں گے اس لیے ان کا لقب ”جابر“ ہو گا۔

امام مہدیؑ کی کیتی ایک قول کے مطابق ”ابو عبد اللہ“ ہو گی اور ایک قول کے مطابق ”ابوالقاسم“ ہو گی چنانچہ سید بزرگ تحریر فرماتے ہیں:

﴿وَكَيْتَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَفِي الشَّفَاءِ لِلْقَاضِي عَيَاضَ رَحْمَهُ﴾

اللہ ان کنیتہ ابو القاسم ﷺ (الاشاع: ص ۱۹۳)

”امام مهدیؑ کی کنیت ابو عبد اللہ ہوگی اور قاضی عیاض کی کتاب شفاء میں ہے کہ ان کی کنیت ابو القاسم ہوگی۔“

لیکن ابو القاسم کنیت رکھنے پر ایک حدیث سے اعتراض وارد ہو گا کہ جس میں حضور ﷺ کے نام اور کنیت کو ایک ہی شخص کے لیے جمع کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے جبکہ حضرت امام مهدیؑ کا نام اور کنیت دونوں حضور ﷺ کے موافق ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں جو ممانعت وارد ہوئی ہے کہ کوئی شخص حضور ﷺ کا نام اور کنیت اکٹھی نہ رکھے بلکہ یا تو صرف نام رکھے یا صرف کنیت، وہ حضور ﷺ کے زمانے پر محظوظ ہے کہ آپ کے زمانے میں کوئی شخص ایسا نہ کرے، ہاں بعد میں اجازت ہے چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں حضرت محمد بن حنفیہؓ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا:

﴿ارایت ان ولدلى بعدک ولدا سمیہ باسمک واکنیه﴾

بکنیتک قال نعم رواه ابو داؤد ﴿مشکوٰۃ الصافع: ص ۲۰۸﴾

”آپ مجھے اس بارے میں بتائیے کہ اگر آپ کی وفات کے بعد میرے یہاں کوئی اولاد ہوئی تو میں آپ کے نام پر اس کا نام اور آپ کی کنیت پر اس کی کنیت رکھ دوں؟ فرمایا ہاں! کوئی حرج نہیں۔“

اس حدیث میں اس بات کی صراحة اجازت ہے کہ حضور ﷺ کی وفات کے بعد آپ کے نام اور کنیت کو جمع کرنا جائز ہے چنانچہ حضرت ملا علی قاریؓ تحریر فرماتے ہیں:

﴿وقيل النهي مخصوص بعياته لثلايبلبس خطابه﴾

بخطاب غیرہ وهذا هو الصحيح ﴿مرقاۃ الفاتح: ج ۹ ص ۱۰۷﴾

”اور ایک قول یہ ہے کہ ممانعت حضور ﷺ کی زندگی کے ساتھ خاص تھی تاکہ التباس لازم نہ آئے اور یہی صحیح ہے۔“

پھر اس کے بعد ملا علی قاریؒ نے علامہ طبیعیؒ کے حوالے سے چند اقوال اس سلسلے میں مزید نقل کیے ہیں اور ہر ایک پر تنقید کی ہے، یہ بہت عمده بحث ہے اہل علم حضرات مرقاۃ کی طرف رجوع فرمائیں۔

### ﴿حضرت امام مہدیؑ کی جائے پیدائش﴾

حضرت امام مہدیؑ کی ولادت باسعادت ” مدینہ منورہ“ میں ہو گی جیسا کہ فیم بن حماد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے۔

﴿المهدی مولده بالمدینة﴾ (کتاب المعن: ص ۲۵۹)

علامہ سید بزرگیؒ نے بھی الاشاعہ میں نعیم بن حماد ہی کی مذکورہ روایت کو نقل کرتے ہوئے حضرت امام مہدیؑ کی جائے پیدائش مدینہ منورہ کو قرار دیا ہے۔

جبکہ امام قرطبیؒ نے اپنی کتاب ”الذکرہ“ میں امام مہدیؑ کی جائے پیدائش بلا و مغرب میں بیان کی ہے۔ کما ذکرہ البرزخی فی الاشاعہ ص ۱۹۲۔ لیکن صحیح اول ہی ہے۔

## ﴿حضرت امام مہدیؑ کی سیرت﴾

حضرت امام مہدی علیہ الرضوان اپنی سیرت "اور اخلاق" میں سرکار دو عالم ﷺ کے مشابہ اور مثال ہوں گے کیونکہ وہ حضور ﷺ کی اولاد میں سے ہوں گے اور ظاہر ہے کہ والدین کی نیکی کا اثر اور پرتو اولاد پر پڑتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں مذکور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو بلا معاوضہ سیدھا کر دیا تھا اور بعد میں اس کی حکمت یہ بیان فرمائی تھی:

﴿وَكَانَ أَبُوهُمَّاصَالِحًا﴾ (سورۃ الکھف آیت نمبر ۸۲)

"ان پچوں کا باپ نیک آدمی تھا۔"

معلوم ہوا کہ والدین کے نام اور کام کا اثر اولاد پر بھی نمایاں ہوتا ہے اور والدین کی نیکی اولاد کے بھی کام آیا کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت امام مہدیؑ کا طور طریقہ اور عادات حضور ﷺ کے مشابہ ہوں گی جیسا کہ صاحب مظاہر حق جدید، حدیث "لا تذهب الدنيا" کے تحت تحریر فرماتے ہیں۔

"حضور ﷺ کے مذکورہ بالا ارشاد گرامی میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ حضور ﷺ کے ساتھ ان کا تعلق صرف نبی اور نسلی نہیں ہوگا بلکہ روحانی اور شرعی بھی ہوگا یعنی ان کا طور طریقہ اور ان کے عادات و معمولات حضور ﷺ کے طور طریقے اور آپ کے عادات و معمولات کے مطابق ہوں گے۔" (مظاہر حق جدید: ج ۵ ص ۳۷)

## امام مہدیؑ کی قیادت:

سیرت میں ایک وصف شجاعت بھی ثمار ہوتا ہے جس کا اظہار عام طور پر میدان کارزار میں قیادت کی اعلیٰ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے پر ہوتا ہے، امام مہدیؑ جن لوگوں کو اپنے لشکر کا کمانڈر مقرر کریں گے اسی سے ان کے سیاسی تدبیر کا علم ہو جائے گا، یہ بات

نعم بن حماد کی زبانی ملاحظہ ہو:

﴿قَادِهُ الْمَهْدِيٍّ خَيْرُ النَّاسِ، أَهْلُ نَصْرَتِهِ وَبَيْعَتِهِ مِنْ أَهْلِ كُوفَّةِ  
وَالْيَمَنِ وَابْدَالِ الشَّامِ، مَقْدِمَتِهِ جَبَرِيلٌ وَسَاقِهِ مِيكَائِيلٌ مَحْبُوبٌ  
فِي الْخَلَاقِ، يَطْفَئُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ الْفَتْنَةَ الْعُمَيَاءَ وَتَامِنَ الْأَرْضَ  
حَتَّى الْمَرْأَةُ لِتَحْجُّ فِي خَمْسِ نَسْوَةٍ مَاعِنْهُنَّ رَجُلٌ، لَا يَتَقَى شَيْئًا  
إِلَّا اللَّهُ، تَعْطِي الْأَرْضَ زَكْوَتَهَا وَالسَّمَاءَ بُرْكَتَهَا﴾

(کتاب الحسن: ص ۵۰)

”امام مہدیؑ کے شکر کے قائدین بہترین لوگ ہوں گے، ان کے معاون اور ان کی بیعت کرنے والے کوفہ، بصرہ اور یمن کے لوگ اور شام کے ابدال ہوں گے، ان کے شکر کا ہر اول دستے حضرت جبریل علیہ السلام اور پیغمپرے کا محافظ دستے حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے، وہ محبوب خلائق ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے انتہائی خطرناک فتنہ کو ختم فرمائیں گے اور زمین میں ایسا امن قائم ہو جائے گا کہ ایک عورت پانچ عورتوں کے ساتھ مل کر بغیر کسی مرد کی موجودگی کے اطمینان سے حج کر لے گی، وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، ان کے زمانے میں زمین اپنی پیداوار اور آسمان اپنی برکتیں بر سادے گا۔“

امام مہدیؑ کا زمانہ:

مذکورہ بالامضمون کے آخری جملہ کی وضاحت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی مروی حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاوَاتِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، لَا تَدْعُ  
السَّمَاوَاتِ مِنْ قَطْرِهَا شِينَا الْأَصْبَتَهُ، وَلَا الْأَرْضَ مِنْ نَبَاتِهَا

شینا الا اخر جتہ حتی یتمنی الاحیاء الاموات ﴿۱﴾

(کتاب المتن: ص ۲۵۲)

”امام مهدیؑ سے آسمان میں رہنے والے بھی راضی ہوں گے اور زمین کے باشندے بھی خوش ہوں گے، آسمان اپنے تمام قطرے بہادے گا، زمین اپنی تمام پیداوار اگل دے گی یہاں تک کہ (خوشحالی دیکھ کر) زندہ لوگ، مردوں کی تمنا کرنے لگیں گے۔“

اسی مضمون کی روایت مخلوکۃ شریف میں بھی ہے۔ اور یہ حدیث اپنے مدلول کے لحاظ سے بہت واضح ہے کہ حضرت امام مهدی علیہ الرضوان کا زمانہ ایسی خوشحالی اور عام فراوانی کا ہو گا کہ ملائکہ بھی ان سے خوش ہوں گے اور زمین والے بھی، بارشیں کثرت سے ہوں گی اور زمین اپنی پوری پیداوار اگائے گی یہاں تک کہ اس قدر خوشحالی دیکھ کر اس زمانے کے لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش! ہمارے آباؤ اجداد بھی زندہ ہوتے اور اس خوش حالی سے لطف اندوز ہوتے۔

### امام مهدیؑ کی سخاوت:

حضرت امام مهدی علیہ الرضوان کی سخاوت اس قدر عالم ہو گی کہ ہر ایک پر اسکی بارش بر سے گی اور اس قدر تام ہو گی کہ پھر کسی سے سوال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی چنانچہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿یکون فی امتی المهدی ان قصر فسیع والافتیع،  
تنعم فیه امتی نعمة لحریسمعوا بمثلها فقط، تؤتی  
اکلها ولا تترک منهم شینا والمال یومئذ کدوس،  
فیقوم الرجل فیقول یا مهدی! اعطنی فی قول خذ﴾

(الذکرہ: ص ۶۹۹)

”میری امت میں مهدی ہوں گے جو کم از کم سات یا نو سال

(خلیفہ) رہیں گے، ان کے زمانے میں میری امت ایسی نعمتوں اور فراؤانیوں میں ہوگی کہ اس سے پہلے اس کی مثال بھی نہ سن گئی ہوگی، زمین اپنی تمام پیداوار اگلے دے گی اور کچھ بھی نہ چھوڑے گی اور اس زمانے میں مال کھلیاں میں اناج کے ڈھیر کی طرح پڑا ہو گا چنانچہ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے مہدی! کچھ مجھے بھی دیجئے! تو وہ اس سے فرمائیں گے کہ (حسب منشاء جتنا چاہو) لے لو۔“

اسی طرح حضرت ابوسعید خدریؓ سے ایک اور روایت مروی ہے:  
 ﴿عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَشِبْنَا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ حَدِيثٌ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَنْ فِي أَمْتَى الْمَهْدِيِّ يَخْرُجُ يَعِيشُ خَمْسَاً أَوْ سِبْعَاً أَوْ تِسْعَاً زِيدَ الشَّاكَ قَالَ قَلْنَا وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ سَنِينَ قَالَ فِي جِنِّيِّ الْيَهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا مَهْدِيًّا اعْطُنِي قَالَ فِي حَشْنِي لَهُ فِي ثُوبَهُ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَحْمِلَهُ﴾ (ترمذی حدیث نمبر ۲۲۳۲)

”حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) ہمیں حضور ﷺ کی وفات کے بعد پیش آنے والے حادثات کے خوف نے آگھیرا توہم نے اس سلسلے میں حضور ﷺ سے دریافت کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا (گھبرا نے کی کوئی بات نہیں) میری امت میں مہدی کا خروج ہو گا جو کہ پانچ یا سات یا نو سال (بطور خلیفہ کے) زندہ رہیں گے۔ (سالوں کی تعداد میں راوی کوشک ہے۔) ہم نے عرض کیا کہ یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ فرمایا کہ سال پھر فرمایا کہ ایک آدمی ان کے پاس آ کر کہے گا کہ اے مہدی مجھے کچھ دیجئے مجھے کچھ دیجئے! تو وہ اپ بھر بھر کر اس کے کپڑے میں اتنا ڈال

دیں گے جس کو وہ اٹھا سکے۔“ یعنی کسی آدمی میں جتنا وزن اٹھانے کی ہمت ہو سکتی ہے۔ امام مہدیؑ اس سے کم نہیں دیں گے۔

نیز حضرت ابو سعید خدریؓ کی ایک مرفوع روایت میں یہ بات مزید وضاحت کے ساتھ آتی ہے۔

﴿مِنْ خَلْفَائِكُمْ خَلِيفَةٌ يَحْثُو الْمَالَ حَتَّىٰ وَلَا يَعْدُهْ عَدَاهُ﴾

(مسلم شریف: ۷۳۷)

”تمہارے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہو گا لوگوں کو مال لپ بھر بھر کر دیں گے اور اس کو شمار بھی نہیں کریں گے۔“

روایات سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ جیسا شخص بھی پورا نہیں اتر سکا اور اس سے امام مہدیؓ ہی مراد ہیں۔

﴿حضرت امام مہدیؓ کی سیرت و اخلاق کریمانہ کا اجمانی نقشہ﴾

حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی سیرت و اخلاق کریمانہ کا سید بر زنجیؓ نے ایک بہت عمده نقشہ کھینچا ہے جس کا ترجمہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

”امام مہدیؓ حضور ﷺ کی سنت پر عمل کریں گے، کسی سوئے ہوئے شخص کی نیز خراب کر کے اسے جگائیں گے نہیں، ناقص خون نہیں بھائیں گے، ہاں! البتہ سنت کے خلاف کام کرنے والے سے جہاد کریں گے۔ تمام سنتوں کو زندہ کر دیں گے اور ہر قسم کی بدعت کو ختم کیے بغیر چین نہ لیں گے، آخر زمانے میں ہونے کے باوجود دین پر اسی طرح قائم ہوں گے جس طرح ابتداء میں حضور ﷺ قائم تھے۔ ذوالقرنین سکندر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح پوری دنیا کے فرمازوں ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے (عیسائیت کو منادیں گے)۔ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح پہلے وہ ظلم و تم میں سے بھری ہوئی ہوگی، لوگوں کو بے حساب لپ بھر بھر کر مال دیں گے۔ مسلمانوں میں الفت، پیار و محبت اور نعمتوں کو لوٹا دیں گے، اور تقسیم بالکل

ٹھیک ٹھیک کریں گے، آسمان میں رہنے والے ملائکہ بھی ان سے راضی ہوں گے اور زمین پر بننے والے جاندار بھی ان سے خوش ہوں گے، پرندے فضاؤں میں، وحشی جانور جنگلات میں اور چھپلیاں سمندروں میں ان سے خوش ہوں گی۔ امت محمدیہ کے دلوں کو غنا سے بھر دیں گے حتیٰ کہ ایک منادی آواز دے گا کہ جس کو مال کی ضرورت ہو، وہ آ کر لے جائے تو اس کے پاس صرف ایک آدمی آئے گا؛ اور کہے گا کہ مجھے مال دینے کا حکم اس سے کہے گا کہ تم خزانچی کے پاس جا کر اس سے کہو کہ مہدی نے مجھے مال دینے کا حکم دیا ہے چنانچہ وہ شخص خزانچی کے پاس آ کر اسے پیغام پہنچا دے گا تو وہ کہے گا کہ تم حسب مشا جتنا چاہو لے لو، وہ شخص اپنی گود میں بھر بھر کر مال جمع کرنا شروع کر دے گا کہ اچانک اسے شرمی محسوس ہو گی اور وہ اپنے دل میں کہے گا کہ تو امت محمدیہ کا سب سے زیادہ لاپچی انسان ہے، یہ سوچ کرو وہ شخص اس مال کو واپس کرنا چاہے گا تو اس سے وہ مال واپس نہیں لیا جائے گا اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ ہم لوگ کچھ دے کر واپس لینے والوں میں سے نہیں ہیں، ان کے زمانے میں تمام لوگ ایسی نعمتوں میں ہوں گے کہ اس سے پہلے اس کی مثال لوگوں نے سنی تک نہ ہو گی۔ بارشیں اس قدر کثرت سے ہوں گی کہ آسمان اپنا کوئی قطرہ پس اندوختہ نہیں چھوڑے گا، اور زمین اتنی پیداوار اگائے گی کہ ایک بیج بھی ذخیرہ نہیں کرے گی، ان کے زمانے میں جنگلیں ہوں گی، وہ زمین کے نیچے سے اس کے خزانوں کو نکال لیں گے اور شہروں کے شہر فتح کر لیں گے، ہندوستان کے بادشاہ ان کے سامنے پابند سلاسل پیش کیے جائیں گے اور ہندوستان کے خزانوں کو بیت المقدس کی آرائش و ترکیم کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ لوگ ان کے پاس اس طرح آئیں گے جیسے شہد کی کھیاں اپنی ملکہ اور سردار کے پاس آتی ہیں حتیٰ کہ لوگ اپنی سابقہ نیک حالت پر واپس آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمیں ہزار فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے جو ان کے مخالفین کے چہروں اور کلوہوں پر مارتے ہوں گے، ان کے لشکر کے سب سے آگے جبریل علیہ السلام اور حفاظت کی خاطر سب سے پیچھے میکا تیل علیہ السلام ہوں گے، ان کے زمانے میں بھیزیں اور بکریاں ایک ہی جگہ چریں گے، پیچے سانپ اور بچھوؤں سے

کھلیں گے اور وہ ان کو کچھ قصان نہ پہنچا سکیں گے، انسان ایک مدد (خاص مقدار) بولے گا اور اس سے سات سو کی پیداوار ہوگی۔ سودخوری، وباوں کا نزول، زنا اور شراب نوشی ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کی عمریں لمبی ہوں گی، امانتوں کی ادائیگی کا اهتمام کیا جائے گا۔ شریروں بد کا رلوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ حضور ﷺ کی اولاد و اہل بیت سے بعض رکھنے والا کوئی نہ رہے گا، امام مہدیؑ خلائق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے انتہائی خطرناک فتنے کی آگ کو بجھا کیں گے۔ اور زمین میں اتنا امن و امان قائم ہو جائے گا کہ ایک عورت بغیر کسی مرد کے پانچ عورتوں کے ساتھ مل کر حج کرائے گی اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا، نیز انبیاء کرام علیہم السلام کے اسفار میں لکھا ہے کہ امام مہدیؑ کے فیصلوں میں ظلم و نا انصافی کا کوئی شایبہ تک نہیں ہوگا۔<sup>۱۹۶-۱۹۷</sup> (الاشاعت لاشراط الساعۃ: ص: ۱۹۶-۱۹۷)

طاوس سے منقول ہے کہ امام مہدیؑ اپنے عمال کی کڑی نگرانی کرنے والے، جنی اور مسکینوں پر رحم کرنے والے ہوں گے۔ (کتاب الفتن: ص: ۲۵۰)

الغرض! وہ تمام خوبیاں جو ایک عمدہ قائد اور اچھے امیر میں ہوئی چاہیں، وہ ان تمام سے متصف ہوں گے اور اخلاقی رذیلہ سے پاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ حالت یکاکی بنا دیں گے جیسا کہ اس سے قبل آپ یہ روایت پڑھ آئے ہیں کہ ”مہدی ہمارے گھر والوں میں سے ہوں گے جن کی اصلاح اللہ تعالیٰ ایک رات میں ہی کر دیں گے۔“

## ﴿حضرت امام مہدیؑ کا حلیہ مبارک﴾

حضرت امام مہدیؑ متوسط قد و قامت کے مالک، گندمی رنگ، کشادہ پیشانی، لمبی اور ستواں ناک والے ہوں گے۔ ابر و قوس کی طرح گول ہوگی، کھلتا ہوا رنگ ہوگا، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والے ہوں گے اور بغیر سرمہ لگائے ایسا محسوس ہوگا کہ گویا سرمہ لگائے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات سید بزرخیؒ کی زبانی ملاحظہ ہوں۔

﴿وَإِمَّا حَلْيَتُهُ فَإِنَّهُ آدَمَ ضَرَبَ مِنَ الرِّجَالِ رِبْعَةً، أَجْلَى

الجهة أقْنَى الْأَنْفَ اشْمَهُ، أَزْجَ أَبْلَجَ، أَعْنَ اكْحَلَ

العينين، براق الشايا افرقها، في خده الايمن خال اسود،  
 يضي وجهه كانه كوكب درى، كث اللحية، في كتفه  
 علامه للنبي ﷺ، اذيل الفخذين، لونه لون عربي،  
 وجسمه جسم اسرائيلى، في لسانه ثقل، واذا ابطاع عليه  
 الكلام ضرب فخذه الايسر بيده اليمنى، ابن اربعين  
 سنة، وفي رواية مابين الثلاثين الى اربعين، خاشع لله  
 خشوع النسر بجنا حيه، عليه عبایتان قطوانیتان يشبه  
 النبي ﷺ في الخلق لا في الخلق (الاشاع: ص ۱۹۷- ۱۹۵)  
 ”امام مہدیؑ کا حلیہ یہ ہے کہ وہ انتہائی گندمی رنگ، ہلکے چکلے جسم  
 والے، متوسط قد و قامت کے مالک، خوبصورت کشادہ پیشانی  
 والے، لمبی ستواں ناک والے ہوں گے، ابر و قوس کی مانند گول اور  
 رنگ کھلتا ہوا ہو گا، بڑے بڑی سیاہ قدر تی سرگیں آنکھوں والے  
 ہوں گے، سامنے کے دونوں دانت انتہائی سفید اور ایک دوسرے  
 سے کچھ فاصلے پر ہوں گے (بالکل ملے ہوئے نہ ہوں گے) دائیں  
 رخسار پر سیاہ قتل کا نشان ہو گا، روشن ستارے کی طرح ان کا چہرہ  
 چکتا ہو گا، گھنی واڑھی ہو گی، کندھے پر حضور ﷺ کی طرح کوئی  
 علامت ہو گی کشادہ رانیں ہوں گی، رنگ اہل عرب کی طرح اور  
 جسم اسرائیلیوں جیسا ہو گا، زبان میں کچھ ثقل ہو گا جس کی وجہ سے  
 بولتے ہوئے لکنت ہوا کرے گی اور اس سے تنگ آ کر اپنی بائیں  
 ران پر اپنا دایاں ہاتھ مار کریں گے، ظہور کے وقت ۲۰ سال کی عمر  
 ہو گی اور ایک روایت کے مطابق ۳۰ سے ۴۰ سال کے درمیان عمر  
 ہو گی، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کرتے ہوئے پرندوں کی  
 طرح اپنے بازو پھیلادیا کریں گے، (اصل میں ”نسر“ گدھ کو کہتے

ہیں جس کا ترجمہ یہاں پر نہ کیا گیا ہے۔) اور دو سفید عبائیں زیب تن کیے ہوئے ہوں گے، اخلاق میں حضور ﷺ کے مشابہ ہوں گے لیکن خلقی طور پر (مکمل) مشابہ نہیں ہو گے۔“

حضرت امام مہدیؑ کا حلیہ حضرت علیؑ سے بھی اسی طرح منقول ہے لیکن اس میں کچھ الفاظ بدلتے ہوئے ہیں، اس کو نعیم بن حماد کی زبانی ملاحظہ فرمائیے:

﴿كَثُرَ اللَّحِيَةُ، أَكَحْلَ الْعَيْنَيْنِ، بِرَاقُ الشَّنَائِيَا، فِي وَجْهِهِ  
خَالٌ، أَقْنَى إِجْلَى، فِي كَتْفَهِ عَلَامَةُ النَّبِيِّ ﷺ، يَخْرُجُ  
بِرَأْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ مَرْطَ مَخْمَلَةِ سُودَاءِ مَرْبَعَةِ،  
فِيهَا حِجْرٌ مَمْرُورٌ مِنْذُ تَوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا  
تَنْشَرُ حَتَّى يَخْرُجَ الْمَهْدَى، يَمْدُهُ اللَّهُ بِثَلَاثَةِ آلَافِ مِنَ  
الْمَلَائِكَةِ، يَضْرِبُونَ وُجُوهَ مِنْ خَالِفَهُمْ وَادْبَارَهُمْ، يَبْعَثُ  
وَهُوَ مَا بَيْنَ الثَّلَيْنِ وَالْأَرْبَعَيْنِ﴾ (کتاب المتن: ص ۲۵۹)

”امام مہدیؑ کی ڈاڑھی گھنی ہوگی، بڑی سیاہ آنکھوں والے ہوں گے، اگلے دو دانت انتہائی سفید ہوں گے، چہرے پر قل کا نشان ہو گا، لمبی ستواں ناک والے ہوں گے، کندھے پر حضور ﷺ کی علامت ہوگی، خروج کے وقت ان کے پاس حضور ﷺ کا چوکور، سیاہ ریشمی روئیں دار جھنڈا ہوگا جس میں (ایسی روحانی) بندش ہو گی کہ جس کی وجہ سے وہ حضور ﷺ کی وفات سے لے کر ظہور مہدیؑ سے قبل کبھی نہیں پھیلا�ا جا سکا ہوگا، (ہلایا نہیں جا سکا ہوگا) اللہ تعالیٰ تین بزار فرشتوں کے ذریعے ان کی مدفرمایں گے جوان کے مخالفین کے چہروں اور کوہبوں پر مارتے ہوں گے، ظہور کے وقت ان کی عمر ۳۰ سے ۴۰ سال کے درمیان ہوگی۔“

## ﴿حضرت امام مہدیؑ کی خلافت، علی منہاج النبوة ہوگی﴾

حضرت امام مہدیؑ کی سیرت کا ایک اور نمایاں پہلو یہ ہو گا کہ وہ دوبارہ خلافت علی منہاج النبوة قائم کریں گے جس سے دور نبوی اور خلفائے راشدین کے روح پرور زمانے کی یاد تازہ ہوگی چنانچہ اس سلسلے میں مشکوٰۃ شریف کی حضرت حذیفہؓ سے مروی روایت ملاحظہ ہو:

﴿عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
طَبَّبَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَكُونُ النَّبُوَةُ فِيمَا كُنْتُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ أَنْ  
تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ خَلْفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوَةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ  
يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ مَلْكًا عَاصِيًّا فِيمَا كُنْ  
مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ مَلْكًا  
جَبَرِيًّا فِيمَا كُنْتُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ  
تَكُونُ خَلْفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوَةِ ثُمَّ سُكِّتَ . قَالَ حَبِيبٌ فَلَمَّا  
قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ اذْكُرْهُ أَيَّاهُ  
وَقُلْتَ ارْجُو أَنْ تَكُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ الْمُلْكِ الْعَاصِيِّ  
وَالْجَبَرِيِّ فَسَرَّبَهُ وَأَعْجَبَهُ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَوَاهُ  
أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النَّبُوَةِ﴾ (مشکوٰۃ الصانع: ص ۳۶۱)

”نعمان بن بشیرؓ، حضرت حذیفہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت رہے گی پھر اللہ اس کو اٹھا لے گا اور طریقہ نبوت کے مطابق حسب منشاء خداوندی خلافت رہے گی پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا، اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت ہوگی اور ارادہ خداوندی کے مطابق رہے گی پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا، اس کے بعد ظلم کی حکومت ہوگی اور حسب منشا خداوندی

رہے گی پھر اللہ اس کو بھی انھا لے گا اور دوبارہ خلافت علی منہاج النبیۃ  
قام ہو جائے گی، یہ کہہ کر آپ ﷺ خاموش ہو گئے۔“  
راوی حدیث حبیب کہتے ہیں کہ جب عمر بن عبد العزیزؓ خلیفہ بنے تو  
میں نے بغرض نصیحت ان کے پاس یہ حدیث لکھ بھیجی اور کہا کہ مجھے  
امید ہے کہ آپ ہی کاث کھانے والی اور ظالمانہ حکومت کے بعد وہ  
امیر المؤمنین ہیں (جس کے بارے میں دوبارہ خلافت علی منہاج  
النبیۃ کی پیشگوئی وارد ہے) یعنی کہ عمر بن عبد العزیزؓ بہت سرور  
اور خوش ہوئے۔“

اس حدیث میں دو مرتبہ خلافت علی منہاج النبیۃ کا ذکر ہے، پہلے مرتبہ تو نبوت  
کے بعد جس کا قیام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے ہو کر خلفاء راشدین  
پر جا کر فتحی ہو گیا، اس کے بعد کاث کھانے والی حکومت، پھر جبri حکومت اور اس کے  
بعد دوبارہ خلافت علی منہاج النبیۃ کے قیام کا تذکرہ ہے اس دوسری خلافت کا قیام امام  
مہدیؑ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو گا چنانچہ اس حدیث کی شرح میں ملا  
علی قاری تحریر فرماتے ہیں:

﴿وَالْمَرَادُ بِهَا زَمَنٌ عِيسَى عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

وَالْمَهْدِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ﴾ (مرقاۃ: ج ۱۰۹ ص ۱۰۹)

”اور اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رحمہ اللہ کا  
زمانہ ہے۔“

نتیجہ: اس موقع پر یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض حضرات نے دوبارہ خلافت علی  
منہاج النبیۃ کے قیام کے لیے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کو اس حدیث کا مصدقہ گردانا  
ہے لیکن یہ ان حضرات کی اپنی رائے ہے، حدیث کا اصل محل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور  
امام مہدی علیہ الرضوان کا زمانہ ہے جیسا کہ ابھی آپ ملا علی قاریؒ کے حوالے سے ملاحظہ  
فرما چکے ہیں۔

### باب سوم

## ظہور مہدیؑ کی علامات

حضرت امام مہدی رضوان اللہ علیہ کے ظہور کی تقریباً ۳۰ علامات،  
جن میں سے بعض ایسی ہیں کہ تخلیق کائنات سے لے کر آب تک  
ان کا ظہور نہیں ہوا۔

## ﴿ علامات ظہور مہدی ﴾

ویسے تو حضرت امام مہدیؑ کے ظہور کی بہت سی علامات ہیں جن کے ظہور پر ہر انسان سمجھ جائے گا کہ یہی مہدیؑ موعود ہیں مثلاً امام مہدیؑ سے قبل سفیانی کا خروج وغیرہ۔ جس کی تفصیلات آئندہ آپؐ کے سامنے پیش ہوں گی۔ لیکن یہاں ان میں سے چند ایک ہی کو بیان کیا جائے گا جن میں سے گوکہ بعض سندا ضعیف ہیں پھر بھی اکثر کے شواہد معتبر احادیث سے مل جاتے ہیں۔

### علامت نمبر ۱:

امام مہدی علیہ الرضوان کے پاس حضور ﷺ کی قمیص مبارک اور جھنڈا ہو گا جس سے ان کی شناخت ہو سکے گی چنانچہ علامہ سید بزرگ تحریر فرماتے ہیں:

﴿ معه قمیص رسول اللہ ﷺ، وسیفہ، ورایته من مرط  
مخملة معلمة سوداء فيها حجر لم تنشر منذ توفي  
رسول اللہ ﷺ، ولا تنشر حتى يخرج المهدی،  
مكتوب على رایته "البيعة لله" ﴾ (الاشاع: ص ۱۹۸)

اس قسم کی ایک حدیث اس سے پہلے بھی کتاب الفتن ص ۲۵۹ کے حوالے سے گزر چکی ہے، نواب صدیق حسن خان نے اپنی کتاب آثار القیامہ فی نجح الکرامہ میں اس عبارت کافاری میں یوں ترجمہ کیا ہے:

”واما علاماتے کہ شناختہ شود باہما مہدی موعود علیہ السلام پس از انجمدہ آنست کہ باوے قمیص وسیف ورایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم باشد و منتشر نشد ایں رایت از وفات و علیہ وسلم و نشود تا آنکہ بیرون آید مہدی، و مکتب باشد بروے این لفظ ”البيعة لله““ (آثار القیامہ: ص ۳۶۵)

”امام مہدیؑ کے پاس حضور ﷺ کی قیص مبارک، تواریخ مبارک اور سیاہ رنگ کا ریشمی روپ میں دار جھنڈا ہو گا اور وہ جھنڈا (کسی روحاںی) بندش کی وجہ سے حضور ﷺ کی وفات سے لے کر ظہور مہدی سے قبل نہیں پھیلایا (ہلاکا) جا سکا ہو گا، اور اس جھنڈے پر یہ الفاظ لکھے ہوں گے ”البیعت لله۔“

### علامت نمبر ۲:

اسی طرح حضرت امام مہدیؑ کی تائید و تصدیق کے لیے ان کے سر پر ایک بادل سایہ ٹکن ہو گا جس میں سے ایک منادی کی یہ آواز آ رہی ہو گی:  
 ﴿هذا المهدی خليفة الله فاتبعوه﴾  
 ”یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، لہذا ان کی اتباع کرو۔“  
 اور اس بادل میں سے ایک ہاتھ نکلے گا جو امام مہدیؑ کی طرف اشارہ کرے گا کہ یہی مہدی ہیں، ان کی بیعت کرو۔ (الاشاعع: ص ۱۹۸)

اور کتاب المعن میں اسی سے متعلق ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں (کہ آسمان سے نداء اس طرح آئے گی)

﴿عليكم بفلان وتطلع كف تشير﴾ (کتاب المعن: ص ۲۳۶)

”تم پر فلاں کی اتباع لازم ہے اور اس کی نشاندہی کے لیے ایک ہاتھ ظاہر ہو گا جو ان کی طرف اشارہ کرتا ہو گا۔“

جبکہ نواب صدیق حسن خان نے خطیب اور ابو قیم کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کرتے ہوئے کہا ہے:

”ود روايي آمدہ کہ فرشتہ باشد برسوے وند اکند کہ ہذا خلیفۃ اللہ

المهدی فاسمعوا واطیعوه۔“ (آثار القیام: ص ۳۶۶)

”اور ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدیؑ کے سر پر (بادل کی

طرح) ایک فرشتہ ہو گا جو یہ نداء کرتا ہو گا کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں لہذا ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔“

### علامت نمبر ۳۔۲:

امام مہدی علیہ الرضوان کی شناخت کے لیے حضرت علیؑ سے مردی ہے کہ امام مہدی ایک پرندے کی طرف اشارہ کریں گے وہ آپ کے سامنے آ کر گر پڑے گا اور ایک درخت سے ایک شاخ توڑ کر زمین میں گاڑیں گے تو وہ اسی وقت سر بیز ہو کر برگ و بارلانے لگے گی۔ (آثار القیامہ: ص ۳۶۶)

سید بزرگ نبی نے بھی اس علامت کو ذکر کیا ہے لیکن ان کے بیان سے یہ دو الگ الگ علامتیں ثابت ہوتی ہیں چنانچہ مندرجہ ذیل عبارت میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔

﴿وَمِنْهَا أَنَّهُ بَغْرِسٍ قَضِيَا يَا بَسَافِيْ إِرْضَنِيْ يَابَسَةً  
فِيْخَضْرُوْيُورَقٌ، وَمِنْهَا أَنَّهُ يَطْلَبُ مِنْهُ آيَةً فَيُؤْمِنُ بِيَدِهِ الِّيْ  
طَيْرٌ فِيْ هَوَاءٍ فَيَسْقُطُ عَلَى يَدِهِ﴾ (الاشاعر: ص ۱۹۸)

”اور ان علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مہدی ایک خشک بائس خشک زمین میں گاڑیں گے تو وہ اسی وقت سر بیز ہو کر برگ و بارلانے لگے گا اور ایک علامت یہ ہے کہ مہدی نے نشان کا مطالبه کیا جائے گا تو وہ اپنے ہاتھ سے فضاء میں اڑتے ہوئے ایک پرندے کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ ان کے سامنے آ گرے گا۔“

### علامت نمبر ۵:

حضرت امام مہدیؑ کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہو گی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہو گا اور جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنادیا جائے گا جیسا کہ عنقریب بالتفصیل آتا ہے۔

مقام بیداء میں لشکر کے زمین میں حضن جانے کی روایات امام مسلم اور امام ابن ماجہ دونوں نے تخریج کی ہیں۔ حوالہ کے لیے ملاحظہ ہو۔

(مسلم شریف: حدیث نمبر ۷۲۳۰، ۷۲۳۳، ۷۲۳۴، ابن ماجہ: حدیث نمبر ۶۳۰۶۵)

### فائدہ:

سفیانی اور اس کے لشکر کے متعلق آپ پوری تفصیلات عنقریب پڑھیں گے کہ وہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک اموی شخص ہو گا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعلوم اور علماء و فضلاء کا بالخصوص قتل عام ہو گا لیکن یہ فتنہ زیادہ دریتک نہیں رہے گا کیونکہ "لکل فرعون موسیٰ" کے تحت حضرت امام مهدیؑ کا ظہور ہو چکا ہو گا جس کی علامت یہ ہو گی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے مغرب سے روانہ ہو گا لیکن جب یہ اپنے لشکر سیست "بیداء" نامی جگہ، جو حرمن کے درمیان ہے، پہنچ گا تو پورا لشکر زمین میں دھما دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت مولا ناصر محمد اور لیں کاندھلویؑ تحریر فرماتے ہیں:

﴿وَهَذِهِ هِيَ فَتْنَةُ امَارَةِ السَّفِيَانِيِّ احْدِي عَلَامَاتِ خَرُوجِ﴾

المهدی و قد وردت فيه احادیث كثيرة متواترة المعنى﴾

(اعلین الصیغ: ج ۶ ص ۲۰۰)

"اس لشکر کا زمین میں دھنسنا فتنہ سفیانی کی نشانی ہو گی اور سفیانی کا

خروج دراصل امام مهدیؑ کے ظہور کی علامت ہو گا اور اس سلسلے میں

بہت کی احادیث تواتر معنوی کے ساتھ وارد ہوئی ہیں۔"

اور اس پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر

کے زمین میں حضن جانے کی خبر دے گا چنانچہ حضرت کاندھلویؑ ہی تحریر فرماتے ہیں:

﴿فَلَا يَنْجُو مِنْهُمْ إِلَّا الْمُخْبَرُ عَنْهُمْ﴾

(اعلین الصیغ: ج ۶ ص ۲۰۰)

‘ان تمام لوگوں میں سے صرف ایک مخبر زندہ بچے گا۔’

لیکن اس روایت پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس میں خروج سفیانی کے متعلق یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مغرب سے خروج کرے گا جبکہ طبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں حضرت امام جیبیہ سے اس سلسلے کی روایت ذکر کی ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ وہ شرق سے خروج کرے گا اور یہ بظاہر تضاد ہے۔

سید برزنجیؒ نے اس تعارض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس کی تاویل یوں کی جاسکتی ہے کہ سفیانی کی طرف سے بھیجا جانے والا شکر روانہ تو عراق (مغرب) سے ہو گا لیکن چونکہ اس شکر میں اہل شام بھی ہوں گے اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض مقامات پر اس شکر کو شای (مشرقی) کہہ دیا گیا ہے۔ (الاشاعر: ص ۲۰۸) اور حضرت کاندھلویؒ نے بھی تعلیق اصیح ج ۶ ص ۲۰۱ پر تقریباً یہی تحریر فرمایا ہے۔

یہی نہیں کہ امام مہدیؒ کے ظہور سے قبل صرف سفیانی کا خروج ہو گا بلکہ بہت سے اور لوگ بھی خروج کریں گے چنانچہ کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے، کچھ مغربی جانب سے اور کچھ جزیرہ العرب سے۔ گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفر رہستی سے مٹانے کے لیے کفر و پوری قوت سے مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزمائی ہو گا اور چہار اطراف سے مرکز عالم اور مرکز اسلام خاتمة کعبہ پر حملہ کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد امام مہدیؒ کا ظہور ہو جائے گا۔

## علامت نمبر ۶:

حضرت امام مہدیؒ کے ظہور کی ایک اور علامت جوان کی تائید کے لیے بطور مہر تصدیق کے ظاہر کی جائے گی اور ان کی شناخت میں کسی کو کوئی شبہ اور تردید نہیں رہے گا، یہ ہو گی کہ آسمان سے ایک منادی امام مہدیؒ کا نام لے کر لوگوں کو ان کے ساتھ جا ملنے اور ان کی مدد کرنے کی طرف ابھارے گا۔ چنانچہ سید برزنجیؒ تحریر فرماتے ہیں:

﴿وَمِنْهَا أَنَّهُ يَنادِي مِنَ السَّمَاوَاتِ إِلَيْهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَطَعَ عَنْكُمُ الْجَابَرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالشَّيَاعِهِمْ، وَوَلَا كُمْ خَيْرٌ إِمَّا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَالْحَقُّو بِمَكَّةَ فَانَّهُ الْمَهْدِيُّ وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَفِي رِوَايَةٍ، وَوَلَا كُمُ الْجَابَرِ خَيْرٌ إِمَّا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، الْحَقُّو بِمَكَّةَ فَانَّهُ الْمَهْدِيُّ وَاسْمُهُ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ﴾ (الأشاعر: ص ۱۹۸، ج ۲۰۹)

”اور ان علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسان سے ایک مناوی آواز دے گا کہ اے لوگو! (تمہیں خوشخبری ہو کہ) اللہ نے خالموں، منافقوں اور ان سے محبت رکھنے والوں سے تمہیں نجات دی اور امت محمدیہ کا بہترین فرد تم پر امیر مقرر کیا لہذا اب تم مکہ کر مہ جا کر اس سے مل جاؤ، وہ مہدی ہیں اور ان کا نام احمد بن عبد اللہ ہے اور ایک روایت میں ان کا نام محمد بن عبد اللہ مذکور ہے۔“

اس علامت کو نواب صدیق حسن خان نے بھی آثار القیامہ ص ۳۶۶ پر ذکر کیا ہے لیکن اس میں امام مہدیؑ کے نام سے متعلق ”احمد بن عبد اللہ“ والی روایت کا ذکر نہیں کیا بلکہ ”محمد بن عبد اللہ“ والی روایت پر ہی جزم ظاہر کیا ہے اور یہی مشہور بھی ہے۔

### علامت نمبر ۷:

زین سونے کے ستونوں کی طرح اپنے جگر کے ٹکڑے باہر نکال دے گی۔

(الأشاعر: ص ۱۹۸، آثار القیامہ: ص ۳۶۶، ترمذی ۲۲۰۸)

سید بزرگ نے اس مقام پر ”سونے کے ستونوں“ کا ذکر کیا ہے جبکہ اپنی اسی کتاب کے ص ۲۳۱ پر ”سونے اور چاندی کے ستونوں“ کا ذکر کیا ہے اور یہی صحیح ہے کیونکہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے مردی روایت میں ”سونے اور چاندی کے ستونوں“ ہی کا ذکر ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْعُودٍ قَالَ أَنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ تَمَّ، وَإِنَّهُ  
صَائِرًا إِلَى النَّقْصَانِ وَإِنَّ امْرَأَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنْ تَقْطَعُ  
الْأَرْحَامَ، وَيُوْخَذُ الْمَالُ بِغَيْرِ حَقِّهِ وَتُسْفَكُ الدَّمَاءُ،  
وَيُشْتَكَى ذُو الْقِرَابَةِ قِرَابَتُهُ لَا يَعُودُ عَلَيْهِ بَشْنَىٰ . وَيُطْوَفُ  
السَّائِلُ لَا يَوْضُعُ فِي يَدِهِ شَتِّىٰ فِيمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذ  
خَارَتِ الْأَرْضُ خَوَارُ الْبَقَرِ يَحْسَبُ كُلُّ اِنْسَانٍ أَنَّهَا خَارَتِ  
مِنْ قَبْلِهِمْ فِيمَا النَّاسُ كَذَلِكَ إِذْ قَدْفَتِ الْأَرْضُ بِأَفْلَادِ  
كَبِدِهَا مِنَ الْذَّهَبِ وَالْفَضْلَةِ لَا يَنْفَعُ بَعْدَ شَنِّيٍّ مِنْهُ لَا ذَهَبٌ  
وَلَا فَضْلَةٌ﴾ (الأشاعر: ص ۲۳۱)

”حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ دین مکمل ہو چکا اور اب  
یہ نقصان کی طرف جائے گا جس کی علامت یہ ہو گی کہ قطع رحمی،  
لوگوں کا مال ناحق لے لینا اور خون بہانا عام ہو جائے گا، قربت دار  
بیکار ہو گا لیکن کوئی اس کی عیادت کرنے نہ جائے گا، سائل بار بار  
چکر لگائے گا لیکن کوئی اس کے ہاتھ پر کچھ نہ رکھے گا۔ اس دوران  
زمین سے گائے کی آواز کی طرح آواز نکلے گی، تمام لوگ اس سوچ  
میں پڑ جائیں گے کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے؟ اسی اثناء میں  
زمین اپنے جگر کے نکرے یعنی ”سونے چاندی کے ستون“ نکال باہر  
پھیکئے گی لیکن اب یہ سونا چاندی کی کو کچھ نفع نہ دے گا۔“

### علامت نمبر ۸:

لوگوں کے دل غنی ہو جائیں گے اور زمین کثرت سے اپنی برکتوں کا ظہیر  
کرے گی (جیسا کہ امام مہدی علیہ الرضوان کی سیرت کے بیان میں گزرا)

## علامت نمبر ۹:

امام مہدیؑ خانہ کعبہ میں مدفن خزانہ نکال کر اس کو فی سبیل اللہ تقسیم کر دیں گے۔ (الاشاعت: ص ۱۹۹) اور خانہ کعبہ کے اس مدفن خزانے کو، جو امام مہدیؑ تقسیم فرمائیں گے، ”رتاج الکعبۃ“ کہا جاتا ہے۔ (آثار القیام: ص ۳۶۶)

## علامت نمبر ۱۰:

حضرت امام مہدیؑ کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے جس کی وجہ یہ ہو گی کہ امام مہدیؑ کتابوت سکینہ (جس کا ذکر قرآنؐ کریم میں بھی بایس طور آیا ہے۔ ”وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم“ (آل عمرہ: ۲۲۸) مل جائے گا جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے اعتقادات وابستہ ہیں، اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت امام مہدیؑ کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے چنانچہ نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں:

”واز انجملہ آنکہ تابوت سکینہ را از غار انطا کیہ یا از بحیرہ طبریہ بر آورده در بیت المقدس نہد و یہود بدیدن وے مسلمان شوند اللہ تعالیٰ منہم۔“ (آثار القیام: ص ۳۶۶) یہی بات (الاشاعت: ص ۱۹۹) پر بھی ہے۔“

”منجملہ ان علامات کے ایک علامت یہ بھی ہے کہ امام مہدیؑ تابوت سکینہ کو انطا کیہ کے کسی غار یا بحیرہ طبریہ سے نکال کر بیت المقدس میں رکھ دیں گے جس کو دیکھ کر سوائے چند ایک کے باقی سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔“

## علامت نمبر ۱۱:

قرآنؐ کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل کا پھٹ کر بارہ

ہمارے باتا صراحتہ مذکور ہے جس کو ”انفلاقِ بحر“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اسی طرح حضرت امام مهدیؑ کے زمانے میں انفلاقِ بحر ہو گا جیسا کہ اس کی تفصیلات آگے آرہی ہیں۔  
(الاشاعر: ص ۱۹۹)

### علامت نمبر ۱۲:

مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا (ظاہر ہے کہ جھنڈے لشکر کے ساتھ ہوتے ہیں) اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہو گا چنانچہ نعیم بن حماد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ:

﴿علماء خروج المهدى الوية قبل من المغرب، عليهما﴾

رجل اعرج من کندہ﴾ (کتاب الفتن: ص ۲۳۰)

”امام مهدیؑ کے ظہور کی علامت وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے اور ان کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک لکڑا شخص ہو گا۔“

### علامت نمبر ۱۳:

مطر الوراق نے ظہور امام مهدیؑ کی علامت کفر کا پھیل جانا بیان کی ہے۔ چنانچہ نعیم بن حماد روایت کرتے ہیں:

﴿لا يخرج المهدى حتى يكفر بالله جهرة﴾

(کتاب الفتن: ص ۲۳۱)

”امام مهدیؑ کا ظہور اس وقت تک نہیں ہو گا جب تک کہ علیم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہ کیا جانے لگے۔“

### علامت نمبر ۱۴:

حضرت امام مهدیؑ کے ظہور سے قبل قتل و غارت گری اس قدر عام ہو جائے گی

کہ ہر نو میں سے سات افراد قتل ہو جائیں گے چنانچہ ابن سیرینؓ سے نعیم بن حماد نے یہ روایت اس طرح نقل کی ہے:

﴿لَا يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ حَتَّىٰ يُقْتَلَ مِنْ كُلِّ تِسْعَةِ سَبْعَةً﴾

(کتاب الفتن: ص ۲۳۱)

اسی طرح کی ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی بایں الفاظ منقول ہے:

﴿لَا يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ حَتَّىٰ يُقْتَلَ ثَلَاثًا، وَيَمُوتَ ثَلَاثًا،

وَيَقْتَلَ ثَلَاثًا﴾ (حولہ بالا)

”امام مهدیؑ کا ظہور نہیں ہو گا یہاں تک کہ ایک تہائی افراد قتل ہو جائیں گے، ایک تہائی اپنی طبعی موت مر جائیں گے اور ایک تہائی باقی بچیں گے۔“

اس کی مزید تفصیلات عنقریب آپ کے سامنے آئیں گی۔ انشاء اللہ۔

### علامت نمبر ۱۵:

ظہور امام مهدیؑ سے قبل لوگوں میں افلاس و تنگی اس قدر پھیل جائے گی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لوٹی کو اس کے وزن کے برابر غلہ میں بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا جیسا کہ کتاب الفتن: ص ۲۳۲ پر اس قسم کی روایت موجود ہے۔

### علامت نمبر ۱۶:

حضرت امام مهدی علیہ الرضوان کی تصدیق و تائید اور امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور اس کی عند اللہ مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہو گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مهدیؑ کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے۔ (بخاری شریف: ۲۹۲، مسلم: ۲۲۲۹) لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب نبوت و رسالت پر کوئی حرفاً نہیں آئے گا اور یہ ایسے ہی ہو گا جیسے حضور ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی اقتداء میں نماز ادا کی، بالخصوص حضرت ابو بکر صدیقؓ کی امامت میں تو اپنی

زندگی کی آخری تمام باجماعت نمازیں ادا فرمائیں لیکن اس سے آپؑ کے منصب نبوت و رسالت میں کوئی کمی نہیں آئی۔

اور جیسا کہ بیان ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امام مہدیؑ کی اقتداء کرنا اس امت کی عند اللہ عزت و شرافت کی دلیل ہے۔ اس کی مکمل تفصیلات آپؑ اسی رسالے کے باب ششم میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

### علامت نمبر ۱۷:

حضرت امام مہدیؑ کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اخلاق و عادات اور سیرت میں تو حضور ﷺ کے مشابہ ہوں گے ہی، حلیہ میں بھی کسی قدر مشابہت رکھتے ہوں گے البتہ ان کی زبان میں لکنت ہو گی جس کی وجہ سے وہ تنگ آ کر کبھی کبھی اپنی ران پر ہاتھ مارا کریں گے جیسا کہ بالتفصیل گزرنا، یہاں بھی اس سلسلے کی ایک روایت آپؑ ملاحظہ فرمائیں، جس کو علامہ سیوطیؓ نے الحاوی للغتاوی میں حضرت حدیفہؓ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿لوله ييق من الدنيا الا يوم واحد لبعث الله رجل ا اسمه﴾

اسمی و خلقہ خلقی یکنی ابا عبد اللہؑ (الحاوی: ج ۲ ص ۷۶)

”اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن پچھے تب بھی اللہ ایک آدمی کو بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں سیرے مشابہ ہرگا اور اس کی کنیت ابو عبد اللہ ہو گی۔“

### علامت نمبر ۱۸:

ظہور امام مہدیؑ کی علامت کے طور پر ”دریائے فرات کا پانی ختم ہو جائے گا

اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہو گا۔“ (الاشاعر: ص ۱۹۹)

چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے:

﴿لاتقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب﴾

## يقتل عليه الناس فيقتل تسعة

اعشار هم (الاشعار: ص ۲۲۹)

”قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو گی جب تک کہ دریائے فرات  
کا پانی ختم ہو کر اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ لوگ  
اس کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے اتنا لڑیں گے کہ ہر دوں  
میں سے نوآدمی قتل ہو جائیں گے۔“

اس حدیث سے ملتے جلتے الفاظ بخاری، مسلم اور ابو داؤد میں بھی ملتے ہیں۔

چنانچہ بخاری شریف میں یہ حدیث ان الفاظ سے مرودی ہے:

﴿يُوشِكُ الْفَرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنزِهِ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ  
حَضَرَهُ فَلَا يَا خَدْمَنِهِ شَيْنًا﴾ (بخاری شریف: حدیث نمبر ۱۱۶، مسلم

شریف: ۷۲۳، ابو داؤد: ۳۳۱۳، ابن ماجہ: ۳۰۳۶)

نیز اس موضوع کی احادیث آپ مسلم شریف ہی میں مندرجہ ذیل مقامات پر

بھی دیکھ سکتے ہیں:

- (۱) حدیث نمبر ..... ۷۲۴
- (۲) حدیث نمبر ..... ۷۲۵
- (۳) حدیث نمبر ..... ۷۲۶
- (۴) حدیث نمبر ..... ۷۲۷

ممکن ہے کہ اس سے قبل علامت نمبر ۷ میں زمین سے جو سونے چاندی کے  
ستونوں کا برآمد ہونا مذکور ہوا ہے اس سے یہی مراد ہوا اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دو الگ الگ  
واقعے ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

علامت نمبر ۱۹:

حضرت امام مہدیؑ کے ظہور کی ایک عجیب و غریب علامت جو کہ سائنسی نقطہ نظر

کے بالکل خلاف ہوگی کہ جس سال ان کا ظہور مقدر ہو گا اس کے رمضان کی پہلی رات کو چاند گر، ہن ہو گا اور اسی رمضان کی پندرہ تاریخ کو سورج گر، ہن ہو گا اور یہ دونوں چیزیں تخلیق کائنات سے لے کر اب تک اس طرح ظہور پذیر نہیں ہوئیں کہ کسی مہینے کی پہلی رات کو چاند گر، ہن ہو پھر اس کی پندرہ تاریخ کو سورج گر، ہن ہو جائے کیونکہ رامنی نقطہ نظر اور جدید فلکیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی مہینے کی ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ اتاریخوں کے علاوہ چاند گر، ہن ممکن نہیں۔

اور اتفاق کی بات ہے کہ اس سال (۱۴۲۳ھ / ۲۰۰۲ء) کے رمضان المبارک میں چاند گر، ہن اور سورج گر، ہن کا واقعہ پیش آچکا ہے۔ لیکن اس کی نعمیت یہ تھی کہ چاند گر، ہن نصف رمضان کو اور سورج گر، ہن آخر رمضان کو ہوا اور یہ فلکیات کی رو سے ممکن ہے اور اس سے قبل بھی کئی مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں کسوف و خسوف ہوا ہے، لیکن مذکورہ بالاعلامت کے طور پر نہ ہونے کی وجہ سے ظہور مہدی کی علامت پوری نہ ہو سکی کیونکہ یہ دونوں علامتیں ایسی ہیں کہ تخلیق کائنات سے لے کر اب تک ان کا ظہور نہیں ہو سکتا چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی کی تحریر فرماتے ہیں:

﴿لِمَهْدِيْنَا آيَتَانِ لَمْ تَكُونَا مِنْذَ خَلْقِ اللَّهِ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ، يَنْكَسِفُ الْقَمَرُ لَأَوْلَى لِيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ  
وَتَنْكِسِفُ الشَّمْسَ فِي النَّصْفِ مِنْهُ﴾

(القول الخقر: ص ۵۷، الاشاعر: ص ۱۹۹، الماوی: ج ۲ ص ۷۸)

اس کا ترجمہ وہی ہے جو اپر بیان ہو چکا۔

مشہور ماہر فلکیات اور جامعہ اشرفیہ کے سابق شیخ الحدیث مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی اپنی کتاب ”فلکیات جدیدہ“ میں ”سیروس“ کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں:

”قدم بیت کے ماہرین نے کسوف و خسوف کے اوقات کے انضباط کے لیے ایک ضابطہ وضع کیا ہے اسے سیروس کہتے ہیں یہ آج تک مسلم و صحیح سمجھا جاتا ہے وہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر آج کسوف یا خسوف ہو تو ۳، ۲۵۸۵، ۱۸۴۱ میں کے بعد بالفاظ دیگر ۱۸ سال ۱۱/۱/۳

دن کے بعد پھر اس کا اعادہ ہوگا البتہ سابقہ مقام پر ان کا نظر آنا ضروری نہیں۔ خوف و کسوف کی تاخیر کا اوسط ۸ گھنٹے ہے، لہذا تم دورة سیروں کے بعد وہ پھر تقریباً انہی مقامات پر نظر آئیں گے۔“

(فلکیات جدیدہ: ص ۲۳۷)

یہ ضابطہ لکھنے کے بعد حضرت نے ”خوف قمر کی تشریع“ کا عنوان قائم کر کے تحریر فرمایا ہے کہ:

”سابقہ بیان سے واضح ہوا کہ خوف ایام استقبال یعنی ۱۳، ۱۴، ۱۵“

تاریخوں کے علاوہ ناممکن ہے۔“ (فلکیات جدیدہ: ص ۲۳۸)

بعض حضرات کو حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کی اس علامت میں تردی پیش آیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا ہے چنانچہ ماہنامہ البلاغ کے شمارہ صفر ۱۴۲۲ھ میں مولانا عمر فاروق لوباروی کا ایک مضمون ”کیا ظہور مہدی ۲۰۰۲ء میں؟“ کے عنوان سے شائع ہوا ہے جس میں موصوف نے اس بات کی پر زور اور مدل تردید کی ہے کہ امام مہدیؑ کے ظہور کے لیے ماہ و من کی تعینی درست نہیں۔ یہاں تک تو بات صحیح تھی۔ لیکن آگے موصوف اس تردید میں ماہرین فلکیات کی رائے پیش کر کے جو بات سمجھے ہیں، درحقیقت اس میں انہیں اشتباہ ہوا ہے۔

چنانچہ موصوف فتنی اعتبار سے گہن والی روایت پر تجویز کرنے ہوئے لکھتے ہیں:

”مذکورہ فتنی وجہ کی وجہ سے یہ روایت پایہ اعتبار سے گرجاتی ہے اس لیے ظہور مہدیؑ جیسے اہم مسئلہ کے لیے اس کو بطور دلیل قرار نہیں دیا جا سکتا ہے اور نہ اس سے یہ عقیدہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ حضرت مہدیؑ کے وقت میں ایسے گہنوں کا ہوتا ضروری ہے اور وہ گہن حضرت مہدیؑ کی علامت ہیں۔“ (ابلان: ص ۳۶)

موصوف کی یہ عبارتہ اس قدر واضح ہے کہ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں اور ان کا یہ مدعہ واضح ہے کہ اس سورج گہن اور چاند گہن کو ظہور مہدیؑ کی علامت نہیں قرار دیا

جا سکتا، حالانکہ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ امام مہدیؑ کے ظہور کے لیے ماہ ون کی تعین درست نہیں لیکن سرے سے اس علامت کا انکار کر دینا ناروا ہے جو آغاز تخلیق سے لے کر اب تک رونما ہی نہیں ہوئی جیسا کہ یہ بات پیچھے بیان ہوئی اور علامت تو ہوتی ہی خلاف عادت اور خرق عادت کے طور پر ہے۔

### علامت نمبر: ۲۰

صرف یہی نہیں کہ امام مہدیؑ کے ظہور کے وقت چاند گر، ان ایک مرتبہ ہو گا بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال رمضان کے مہینے میں دو مرتبہ چاند گر، ان ہو گا، ایک مرتبہ تو رمضان المبارک کی چہلی رات میں ہو گا اور دوسرا اس کے علاوہ ہو گا اور ایک مہینے میں کئی مرتبہ گر، ان ہونا جدید فلکیات کی رو سے ناممکن نہیں۔

### علامت نمبر: ۲۱

حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کے وقت ایک اور آسمانی علامت کا ظہور ہو گا چنانچہ سید بر زنجیر تحریر فرماتے ہیں:

﴿وَمِنْهَا طَلُوعٌ نَجْمٌ لِهِ ذَنْبٌ يَضْبَطُ﴾ (الاشاعر: ص ۱۹۹)

”اور ان علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک روشن دم دار تارا ظاہر ہو گا“ حسب بیان سید موصوف اس کا وقوع ہو چکا ہے لیکن ایک دفعہ وقوع سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوبارہ اس کا وقوع نہ ہو گا اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دم دار کوئی الگ نوعیت کا ہو۔

### علامت نمبر: ۲۲

مشرق کی طرف سے ایک اختتائی عظیم آگ کا تین یا سات راتوں تک مسلسل ظاہر ہنا بھی علامات ظہور مہدی میں شمار کیا گیا ہے۔ (حوالہ بالا)

### علامت نمبر: ۲۳

آسمان پر انتہائی گھٹاٹوپ تاریکی کا چھا جانا۔ (الاشاعر ص ۲۰۰)

### علامت نمبر: ۲۴

آسمان کا انتہائی سرخ ہو جانا اور اس سرخی کا افق پر پھیل جانا۔

یاد رہے کہ افق کی یہ سرخی عام معمول کی سرخی نہیں ہوگی بلکہ اس سے ہٹ کر ہوگی

نیز سیاہی اور سرخی کا چھا جانا دوالگ الگ و قتوں میں ہو گا نہ کہ ایک ہی وقت میں۔ (حولہ بالا)

### علامت نمبر: ۲۵

آسمان سے ایک ایسی آواز کا آنا جو تمام اہل زمین سن لیں گے اور عجیب تر بات یہ ہوگی کہ وہ آواز ہر زبان والے کو اس کی اپنی زبان میں سنائی دے گی۔ (چنانچہ عربی کو عربی میں، پنجابی کو پنجابی میں اور پختہان کو پشتومیں، غرضیکہ ہر ایک کو وہ آواز اسی کی مادری زبان میں سنائی دے گی اور قدرست خداوندی کے سامنے ایسا ہونا بعید نہیں کیونکہ: "ان الله على كل شيء قدير". (بکریہ مذکورہ)

### علامت نمبر: ۲۶

شام کی "حرستا" نامی بستی کو زمین میں دھناریا جائے گا۔ (حولہ بالا)

اس مسئلے میں سید بزرگ نجی نے ابن عساکر کے حوالہ سے ایک روایت بایں الفاظ

نقل کی ہے:

\* لا يخرج المهدى حتى يخسف بقرية بالغوطة تسمى

حرستا \* (الاشاعر ص ۲۳۱)

"امام مهدی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوں گے جب تک کہ غوطہ کی

حرستا نامی بستی زمین میں دھناریہ جائے۔"

### علامت نمبر: ۲۷

نفس زکیہ کا قتل بھی نکھور مهدی کی علامات میں شامل کیا گیا ہے۔ (الاشاعر ص ۲۳۹)

چنانچہ مجاهد کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک صحابی رسول نے یہ حدیث بیان کی:

﴿إِذَا قُتِلَتِ النَّفْسُ الزَّكِيَّةُ غَضَبَ عَلَيْهِمْ مِنْ فِي السَّمَاءِ﴾

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ فَيَا تَنْيَى النَّاسُ الْمُهَدَّى فَزْفُوهُ كَمَا تَزَفَ

الْعَرْوَسُ إِلَى زَوْجِهَا لِيلَةَ عِرْسَهَا﴾ (بِحَوْالَةِ الْمَذَكُورَةِ)

”جب نفس زکیہ شہید ہو جائیں گے تو ان لوگوں پر آسمان و زمین  
والے غصب ناک ہو جائیں گے، پھر لوگ امام مہدیؑ کے پاس  
آ کر انہیں تیار کریں گے، جیسے دہن کوشب زفاف میں اس کے  
خاوند کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔“

فائدہ:

اگر آپ تاریخ اسلام پر ایک اجمانی نظر ڈالیں تو آپ کو بنو عباس کے زمانہ خلافت میں نفس زکیہ نامی ایک شخص کا حوالہ ملے گا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے اور ان کا نسب تین واسطوں سے حضرت علیؑ سے جاتا ہے۔ ان کا پورا نام ”محمد انصف الرکیۃ بن عبد اللہ الحسن بن الحسن الحشی بن الحسن بن علیؑ“ ہے، اہل مدینہ نے ان سے بیعت خلافت لی تھی لیکن یہ خلافت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور خلیفہ منصور عباسی کے زمانے میں موسیٰ بن عیسیٰ نے ان کو شہید کر دیا تھا۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ روایات مہدی میں جس نفس زکیہ کا بار بار ذکر آتا ہے اس سے مراد آئندہ پیدا ہونے والے نفس زکیہ ہیں۔ خلیفہ منصور عباسی کے زمانے کے نفس زکیہ مراد نہیں کیونکہ اگر وہی مراد لیے جائیں تو پھر امام مہدیؑ کا ظہور کبھی کا ہو چکا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک ہی نام کے دو الگ شخص ہیں۔

علامت نمبر: ۲۸

خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈوں کا آنا۔

اس سلسلے میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے

فرمایا:

﴿يَا تَيْمَةً قَوْمٌ مِنْ قَبْلِ الْمُشْرِقِ وَالْمُشْرِقِ مَعْهُمْ رَأِيَاتٌ سُودٌ فِي سَالَوْنٍ

الْخَيْرٌ فَلَا يُعْطَوْنَهُ فَيَقْاتِلُونَ فَيُنَصَّرُونَ فَيُعْطَوْنَ مَاسَالَوْنًا

فَلَا يَقْبِلُونَهُ حَتَّىٰ يَدْفَعُوهَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيٍ فَيَمْلُؤُهَا

قَسْطًا كَمَا مَلَأُوهَا جُورًا فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ

فَلِيَاتَهُمْ وَلَوْ جَبَوْا عَلَى الْشَّلْجِ﴾ (الاشاعر: ص ۲۲۰)

”مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ (ضرورت کی وجہ سے) مال کا مطالبہ کریں گے، لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے اب وہ لوگ ان کے مطالبہ کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے حتیٰ کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین را اسی طرح عدل و انصاف سے بھردے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و تم سے بھرا ہوا گا سوتھ میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے اگرچہ برف پر چل کر آنا پڑے۔“

علامت نمبر: ۲۹

ایک کان کے پاس لوگوں کا حصہ جانا۔

اس سلسلے میں حاکم نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مندرجہ ذیل

روایت نقل کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

﴿تَخْرُجٌ مَعَادِنَ مُخْتَلَفَةٍ، مَعَدِنٌ مُهْلَكٌ قَرْزِيبٌ مِنَ الْحِجَازِ

يَا تَيْمَةً شَرَارُ النَّاسِ يَقَالُ لَهُ فَرَعُونٌ فَبَيْنَمَا هُمْ يَعْمَلُونَ فِيهِ

اذ حسر عن الذهب فاعجبهم معتمله في بينما هم

كذلك اذ خسف به وبهم۔ ﴿الأشاعر: ص ۲۲۳﴾

”(قیامت کے قریب مختلف علاقوں سے) مختلف (دھاتوں کی) کانیں برآمد ہوں گی، جن میں سے ایک کان جماز کے قریب بھی ظاہر ہوگی۔ اس کے حصول کے لیے ایک بدترین آدمی جس کا القب (ہی کثرت ظلم و تم کی وجہ سے) فرعون پڑ گیا ہوگا، آئے گا، (اور لوگوں کو اس میں کام کرنے پر لگا دے گا) لوگ اس میں کام کر رہے ہوں گے کہ سونے کی ایک اور کان ظاہر ہوگی، اس کو دیکھ کر وہ ابھی خوش ہی ہو رہے ہوں گے کہ وہ اس کان سمیت زمین میں دھنسا دیئے جائیں گے۔“

### علامت نمبر ۳۰:

ظہور مہدیؑ پر دلالت کرنے والی علامات میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیز رفتاری سے گزرنا بھی ہے جس کی وجہ بظاہر وقت میں بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہو گا چنانچہ حضرت سید بزرگؐ فرماتے ہیں:

﴿وَمِنْهَا طُلُوعُ الْقَرْنِ ذِي السَّنَنِ﴾ (الأشاعر: ص ۲۲۲)

اور اس کی تائید ترمذی شرینؓ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں حضرت اکرم ﷺ نے فرمایا:

﴿لَا تَقُومُ الْمَاعِدَةُ حَتَّىٰ يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالجَمْعَةِ وَتَكُونُ الْجَمْعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ﴾

(رواہ الترمذی، مکلوٰۃ: ص ۲۰۷)

”قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو“

جائے (اس تیزی سے نہ گزرنے لگے کہ) سال مہینہ کے برابر،  
مہینہ ہفتہ کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن ایک گھنٹے کے برابر اور  
ایک گھنٹہ آگ کا شعلہ سلانے کے برابرنہ ہو جائے“  
اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ماعلیٰ قاریٰ نے امام خطابیؑ کا یہ قول نقل  
فرمایا ہے:

﴿قَالَ الْخَطَابِيُّ وَيَكُونُ ذَلِكُ فِي زَمْنِ الْمَهْدِيِّ  
أَوْ عِيسَى عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ كَلِيمَهَا قَلْتُ وَالْآخِيرُ  
هُوَ الظَّهَرُ وَظَهُورُ هَذَا الْأَمْرِ فِي خُرُوجِ الدِّجَالِ وَهُوَ فِي  
زِمَانِهِمَا﴾ (مرقة الفاتح: ج ۱۰ ص ۱۶۹)

”امام خطابیؑ نے فرمایا ہے کہ ایسا امام مہدیؑ یا حضرت عیسیٰ یاد دونوں  
کے زمانے میں ہوگا، میں کہتا ہوں کہ آخری قول ہی زیادہ ظاہر ہے  
کیونکہ یہ معاملہ خروج دجال کے وقت پیش آئے گا اور دجال کا  
خروج ان دونوں بزرگوں کے زمانے میں ہوگا۔“

## باب چہارم

### ظہور مہدیؑ سے قبل کے واقعات

خرونج سفیانی، سفیانی کا نام، حلیہ، کردار،  
کیفیت، خرونج، فتنہ فساد پھیلانا۔ وغیرہ

## ﴿ظهور مهدیؑ سے قبل کے واقعات﴾

چونکہ حضرت امام جہدی رضوان اللہ علیہ کا ورود مسعود قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے اس لیے ارتباط کی غرض سے ان کے ورود سے قبل کے واقعات کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

### خروج سفیانی:

حضرت امام مهدیؑ کے ظہور سے قبل عرب و شام میں حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سادات کو قتل کرے گا، حسب بیان سید بر زنجی یہ شخص خالد بن یزید بن ابی سفیان کی نسل سے ہوگا۔

(ترجمان النبی: ج ۲۳ ص ۳۷۲، کتاب البرہان ج ۲ ص ۲۲۹ برواہت حضرت علیؑ)

شیخ نعیم بن حماد نے بھی سفیانی کے خالد بن یزید بن ابی سفیان کی نسل سے ہونے کی روایت نقل کی ہے جس میں اس کا کچھ حلیہ اور کیفیت خروج بھی مذکور ہے۔

”سفیانی، خالد بن یزید بن ابی سفیانؓ کی اولاد میں سے ہو گا، یہ شخص بھاری بھر کم جسم والا ہوگا، چہرے پر چیپک کے آثار ہوں گے، آنکھ میں سفید داغ کا نشان ہوگا، دمشق کے نواحی علاقوں میں سے ایک وادی سے خروج کرے گا جس کا نام ”وادی یا بس“ ہوگا۔

وہ سات آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ خروج کرے گا، جن میں سے ایک کے پاس ایک جھنڈا بھی ہو گا۔ لوگ اس کے جھنڈے تئے مدد آنے کا خیال کریں گے اور اس کے آگے آگے تیس میل چلتے ہوں گے، جو آدمی بھی اس جھنڈے کو سرگوں کرنا چاہے گا وہ خود ہی شکست سے دو چار ہوگا۔“ (کتاب انفن: ص ۱۸۹)

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ”ابوسفیان کی اولاد میں سے ایک شخص وادی یا بس میں سرخ جھنڈوں کے ساتھ خروج کرے گا جس کے بازو اور پنڈلیاں پتلی ہوں گی، گروں لمبی ہوگی، انہٹائی زرور گنگ ہو گا اور اس پر عبادت کے آثار نمایاں ہوں گے۔“  
(کتاب الفتن: ص ۱۹۰)

نیز حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں:

﴿يَحْرُكُ بِالْيَيَاءِ رَجُلًا عَوْرَةَ الْعَيْنِ، فَيَكُثُرُ الْهَرْجُ،  
وَيَحْلُّ النِّسَاءَ وَهُوَ الَّذِي يَبْعَثُ بِجِيشٍ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾

(کتاب الفتن: ص ۲۹۳)

”ایلیاء میں ایک کانا شخص متحرک ہو گا جو کثرت سے قتلہ پھیلائے گا اور عورتوں کو حلال کروے گا اور یہی مدینہ کی طرف ایک لشکر روانہ کرے گا۔“

### سفیانی کا نام:

سفیانی کے نام کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں چنانچہ مولا ناسید محمد بدر عالم مہاجر مدنی ”نے ترجمان السنۃ میں امام قرطبیؓ کی تذکرہ کے حوالے سے سفیانی کا نام عروہ ذکر کیا ہے جبکہ شیخ نعیم بن حماد نے کتاب الفتن ص ۱۹۱ پر سفیانی کا نام عبد اللہ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح کتاب مذکور کے ص ۱۸۹ پر سفیانی کا پورا نام عبد اللہ بن یزید ذکر کیا ہے۔

امام قرطبیؓ نے اپنی کتاب تذکرہ کے ص ۲۹۳ پر ابو الحسین احمد بن جعفر بن مناوی کی روایت سے سفیانی کا نام عتبہ بن ہند نقل کیا ہے۔

### سفیانی کی حکومت اور مدت حکومت:

مولانا سید بدر عالم فرماتے ہیں کہ سفیانی کا حکم ملک شام و مصر کے اطراف میں چلے گا (ترجمان السنۃ ج ۲ ص ۳۷۲) اور اس کی مدت حکومت کے بارے میں ایک

روایت یہ ہے کہ سفیانی ساڑھے تین سال حکومت کرے گا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کی مدت حکومت ۱۹ ماہ یا کے ماہ ہوگی۔ (کتاب الفتن: ص: ۱۸۸)

سفیانی کی بیعت کرنے والے اہل شام ہوں گے (یاد رہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے قبل خروج سفیانی ہو گا، اس سفیانی کے خروج سے پہلے ایک اور شخص خروج کرے گا اور اتفاق سے اس کا نام بھی سفیانی ہی ہو گا چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ سفیانی نام کے تین افراد ہوں گے جن میں سب سے آخری امام مہدیؒ کے ظہور سے قبل خروج کرے گا یہاں اس آخری سفیانی سے پہلے والا سفیانی مراد ہے۔) سفیانی ان کو لے کر اہل مشرق سے قاتل کرے گا اور ان کو فلسطین سے دھکیلتا ہوا مر ج صفر، جو کہ دمشق کے جنوب میں واقع ہے، تک جا پہنچ گا، وہاں پہنچ کر دوبارہ جنگ ہوگی جس میں اہل مشرق شکست کھا کر پسپا ہوتے ہوئے مر ج الشنیۃ (شنبیۃ العقاب) تک جا پہنچیں گے، وہاں مجمع ہو کر پھر سفیانی سے لڑیں گے اور حسب سابق شکست کھا کر حمص کے قریب "حص" نامی جگہ پہنچیں گے، وہاں پھر جنگ ہوگی اور اہل مشرق قریباً آپس پہنچیں گے، اس کے بعد وہ بغداد کے قریب "عاقر قوفا" نامی بستی پہنچ کر آخری فیصلہ کن معرکہ پا کریں گے لیکن وہ اس میں بھی شکست کھا جائیں گے اور سفیانی ان لوگوں کے اموال کو جمع کر کے مال غنیمت بنالے گا۔ اس کے بعد سفیانی کے حلق میں ایک پھوٹا نکلے گا اور وہ صحیح کے وقت کوفہ میں داخل ہو کر شام کو اپنے لشکروں سمیت واپس روانہ ہو جائے گا اور شام کے قریب پہنچ کر راستے میں ہی اس کی وفات ہو جائے گی۔ ادھر جب اہل شام کو سفیانی کی موت کی خبر معلوم ہوگی تو وہ بغاوت کر دیں گے اور بنو کلب کے ایک شخص عبد اللہ بن یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اس کی دونوں آنکھیں اندر کو دھنسی ہوں گی اور انتہائی بد شکل ہو گا جبکہ اہل مشرق سفیانی کی موت کی خبر سن کر کہیں گے کہ اب اہل شام کی حکومت ختم ہو گئی اور وہ نئے امیر کی اطاعت سے انکار کر کے بااغی ہو جائیں گے، عبد اللہ بن یزید (سفیانی) کو معلوم ہو گا تو وہ اپنے سارے لشکروں کو لے کر ان پر چڑھ دوڑے گا اور ان سے خوب قاتل کرے گا حتیٰ کہ اہل مشرق شکست کھا کر کو فہ میں داخل

ہو جائیں گے اور سفیانی ان میں سے لڑنے والوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قید کریگا اور کوفہ کو برپا کر دے گا۔ اس کے بعد حجاز کی طرف ایک لشکر روانہ کرے گا۔“

(کتاب الحفن: ص ۲۰۲، ۲۰۳)

### فتنه سفیانی کی سختی:

سفیانی کا فتنہ اس قدر سخت ہو گا کہ ایک حدیث میں ہے:

”حضور ﷺ نے فرمایا ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص اسلام میں ایسا سوراخ کھول دے گا کہ پھر اس کو بند نہیں کیا جاسکے گا۔“

نیز حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

”دو دین کا یہ امر ثحیک ثحیک چلتا ہے گا یہاں تک کہ سب سے پہلے اس کا مثلہ بنو امیہ کا ایک شخص کرے گا۔“ (کتاب الحفن: ص ۱۸۹)

اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ:

”بنو ہاشم میں سے ایک شخص حکمران بن جائے گا اور وہ بنو امیہ کو قتل کرے گا چنانچہ بنو امیہ میں سے صرف چند افراد ہی قتل ہونے سے بچیں گے، پھر بنو امیہ کا ایک شخص ”سفیانی“ لکھے گا اور وہ بنو ہاشم کے دو آدمیوں کو اس ایک آدمی کے بد لے قتل کرے گا جس کو بنو ہاشم نے قتل کیا ہوگا (ایک آدمی کے بد لے میں دو قتل کرے گا۔) یہاں تک کہ صرف عورتیں بچیں گی۔ اس کے بعد امام مہدیؑ کا ظہور ہو جائے گا۔“ (کتاب البر بان: ج ۲ ص ۶۲۳)

نیز ایک روایت میں ہے کہ:

”سفیانی اس حال میں خروج کرے گا کہ اس کے پاس بانس کی تین لکڑیاں ہوں گی، وہ جس کو بھی ان لکڑیوں سے مارے گا وہ مر

جائے گا۔” (کتاب البرہان: ج ۲ ص ۲۵۳)

## خروج سفیانی کی کیفیت:

ایک روایت میں خروج سفیانی کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے:

”سفیانی کو خواب دکھایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اٹھ کر خروج کرو، وہ اس ارادے کے ساتھ اٹھے گا لیکن اپنی موافقت میں کسی کو نہ پائے گا، دوبارہ اسی طرح اس کو خواب آئے گا، پھر تیسری مرتبہ اس سے کہا جائے گا کہ اٹھ کر خروج کرو اور دیکھو کہ تمہارے گھر کے دروازے پر کون ہے؟ چنانچہ وہ اٹھ کر دیکھے گا تو اس مرتبہ اپنے گھر کے دروازے پر سات یا نو افراد کو پائے گا جن کے پاس جھنڈے ہوں گے اور وہ اس سے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں (اس لیے تم ہمیں اپنا ہی سمجھو اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں) چنانچہ وہ ان کے ساتھ خروج کرے گا اور وادی یا بس کی بستیوں میں سے کچھ لوگ اس کے تابع ہو جائیں گے۔ ان کی سرکوبی اور ان سے جنگ کرنے کے لیے دمشق کا گورنر روانہ ہو گا لیکن جوں ہی اس کی نظر سفیانی کے جھنڈے پر پڑے گی وہ شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہو گا، ان دنوں دمشق کا گورنر بنو عباس کی طرف سے مقرر ہو گا۔“ (کتاب البرہان: ج ۲ ص ۲۵۵)

اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ:

”سفیانی بدترین بادشاہ ہو گا کہ علماء اور فضلاء کو قتل کرے گا اور ان کو فتا کے گھاث اتنا روئے گا، نیز وہ ان سے اپنی مدد کا مطالبہ کرے گا اور ان کا رکنے پر ان کو قتل کر دے گا۔“

یہ چند روایات بطور نمونہ کے پیش کی گئی ہیں جن میں سفیانی کے حالات کا بقدر

ضرورت تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس کا نام، طبلہ، کروار اور خروج کی کیفیت کیا ہو گی؟ اس سلسلے میں امام قربیؒ نے اپنی کتاب تذکرہ میں سفیانی کے متعلق یہ روایت بھی ذکر کی ہے۔

”سفیانی کی مکمل تفصیلات ابو الحسین احمد بن جعفر بن مناوی نے اپنی

کتاب ”الملاحم“ میں بیان کی ہیں اور کہا ہے کہ سفیانی کا نام عتبہ بن

ہند ہو گا اور یہ اہل دمشق کے درمیان کھڑا ہو کر کہے گا کہ میں تم ہی میں

کا ایک فرد ہوں، میرے دادا معاویہ بن ابی سفیانؓ اس سے پہلے

تمہارے ولی امر رہ چکے ہیں، انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک

کیا اور تم نے ان کی خوب اطاعت کی۔ پھر ابو الحسین نے ایک طویل

کلام ذکر کیا یہاں تک کہ ایک جرمی کی طرف سفیانی کے بھیجے ہوئے

خط کا تذکرہ کیا جو سرز میں شام میں رہتا ہو گا، اسی طرح بر قی کے خط کا

جو کہ بر قہ کی سرحد کے ساتھ مغرب میں رہتا ہو گا، ابو الحسین نے

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ پھر جرمی آ کر سفیانی سے

بیعت کرے گا اور اس جرمی کا نام عقیل بن عقال ہو گا، اس کے بعد

بر قی شخص آئے گا جس کا نام ہمام بن الورد ہو گا (روایت میں اس کے

بیعت کرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔) پھر ابو الحسین نے سفیانی کے ملک

مصر جانے اور وہاں کے بادشاہ سے جنگ کرنے کا تذکرہ کیا کہ وہ فرمایا

کہ مل پر یا اس سے کچھ پیچھے سات دن تک برابران لوگوں کو تہہ تیغ

کرے گا حتیٰ کہ اہل مصر کے ستر ہزار افراد قتل ہو جائیں گے۔ پھر اہل

مصر تھک ہا کر اس سے صلح کر لیں گے اور اس کی بیعت میں داخل ہو

جائیں گے اور سفیانی شام واپس آ جائے گا۔“ (اذکرہ للقرطبی: ص ۲۹۳)

روایات کے اس تناظر میں اب یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ امام مہدی علیہ

الرضوان کے ظہور سے قبل اسلام اور مسلمان سخت تکالیف میں بنتا ہوں گے، ان پر ظلم و تم

کے پھر توڑے جائیں گے اور ان کو جائے پناہ کا ملنا مشکل ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے وقف رہی ہے کیونکہ اس نے اپنے اوپر مومنین کی مدد کرنا لازم کر رکھا ہے۔ چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے:

**(۲۷) وَ كَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (الروم: ۲۷)**

تنبیہ: یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ لزوم کی دو قسمیں ہیں:

(۱) لزوم اتحقاقی      (۲) لزوم تفصیلی

**لزوم اتحقاقی:**

ایک چیز کسی پر اس طرح لازم ہو کہ وہ غیر کا حق ہو۔

**لزوم تفصیلی:**

ایک چیز کسی پر اس طرح لازم ہو کہ وہ غیر کا حق نہ ہو بلکہ اس نے مہربانی کر کے اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کی مدد کرنا اپنے اوپر لازم کیا ہے وہ لزوم تفصیلی کے طور پر ہے نہ کہ لزوم اتحقاقی کے طور پر۔

الغرض! سفیانی کے خروج کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال رہے گی، اس کی تفصیلات بھی قرطبی کی مذکورہ روایت ہی میں موجود ہیں اور وہ یہ کہ:

”ابو الحسن نے سفیانی کے واقعہ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بہت

سے عجائبات کا ذکر کرہ کیا ہے نیز اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ اس کے

لشکر کو زمین اس طرح نگل لے گی کہ ان کے سر توڑے میں سے باہر

ہوں گے اور گردن تک کا سارا جسم زمین میں ڈھنس جائے گا اور ان

کا تمام مال و دولت، خزانہ اور قیدی سب اپنی حالت پر ہوں گے،

یہ خبر گورنر مکہ کو پہنچے گی جس کا نام محمد بن علی ہو گا اور وہ السبط الاعظم

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے ہو گا، جب وہ مکہ

سے کوچ کا ارادہ کر کے روانہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے زمین کی  
دوریوں کو ہٹا کر گویا زمین کو لپیٹ دیں گے اور وہ اسی دن اس  
بیان میں جا پہنچے گا جہاں سفیانی کا شکر مذکورہ بدترین صورت  
حال سے دوچار ہوگا چنانچہ محمد بن علی اور اس کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی  
حمد و شاء کریں گے اور تسبیح و تمجید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تمام عافیت  
ونعمت کا سوال کریں گے۔” (لند کردہ ص: ۶۹۵)

### سفیانی کا جھنڈا:

آخر زمانے میں اختلافات کی کثرت ہو گی، قیامت قریب آچکی ہو گی اور  
سفیانی کا خروج ہو چکا ہوگا جس کی علامت یہ ہو گی کہ بقول محمد بن حنفیہ اختلافات کے  
وقت شام میں تین جھنڈے بلند کیے جائیں گے، ایک جھنڈا ابقع نامی شخص کا ہو گا، دوسرا  
جھنڈا اصحاب نامی شخص کا ہو گا اور تیسرا جھنڈا سفیانی کا ہو گا۔ (کتاب المعن: ص: ۱۹۶)  
اور ایک روایت میں ہے کہ ان تینوں میں سے سفیانی غالب آجائے گا چنانچہ  
مردی ہے کہ:

”جب لوگوں میں اختلافات بڑھ جائیں گے تو کچھ وقت گزرنے  
کے بعد مصر میں اباقع نامی ایک شخص ظاہر ہو گا، وہ لوگوں کو قتل کرتے  
ہوئے ”ارم“ تک جا پہنچے گا پھر اس پر ایک بدھل شخص حملہ کر دے گا  
چنانچہ ان دونوں کے درمیان سخت جنگ ہو گی اسی اثناء میں ملعون  
سفیانی کاظہور ہو جائے گا اور وہ ان دونوں پر غالب آجائے گا۔“

(بحوالہ مذکورہ)

اور ایک روایت میں ہے کہ:

”سفیانی مصر جا کر چار ماہ قیام کرے گا اور مصر میں قتل و غارت گری

کا بازار گرم کر دے گا اور لوگوں کو قیدی بنالے گا۔” (بحوالہ مذکورہ)

## ﴿خروج سفیانی کا اجتماعی نقشہ ﴾

علامہ ابن حجر یقینیؒ نے اپنی کتاب ”القول الختقر فی علمات المهدی المختار“ میں خروج سفیانی کی تفصیلات کا ایک نہایت اچھا اور جامع خلاصہ تحریر فرمایا ہے، یہاں اس کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے۔

”امام مہدیؑ کے ظہور سے پہلے ۳۶۰ سواروں کے ساتھ سفیانی کا خروج ہو گا، اس کے بعد اس کے نھیاں بنو کلب کے تیس ہزار افراد اس کے قرعہ ہو جائیں گے اور وہ عراق پر حملہ کے لیے اپنے لشکر کو روانہ کر دے گا جو مقام زوراء (ایک مشرقی شہر) میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دے گا پھر اس کے لشکری کوفہ پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیں گے (ادھر تو یہ ہورہا ہو گا اور ادھر) مشرق کی طرف سے ایک جنڈا ظاہر ہو گا جس کی قیادت بن قیم کے شیعہ بن صالح نامی ایک شخص کے ہاتھ میں ہو گی اور وہ قیدی کوفیوں کو آزاد کرائے گا اور سفیانی کے لشکریوں سے جنگ کرے گا، سفیانی اپنا دوسرا لشکر مدینہ منورہ کی طرف بھیجے گا۔ وہاں بھی اس کے لشکری تین دن تک لوٹ مار کرتے رہیں گے پھر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور جب بیداء نامی جگہ پر پہنچیں گے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم خداوندی ہو گا اور وہ اپنا پاؤں ان پر ماریں گے جس کی وجہ سے پورا لشکر زمین میں ہنس جائے گا اور صرف دو آدمی بچیں گے۔

وہ دونوں سفیانی کو آ کر اس ہولناک داقعہ کی خبر دیں گے لیکن اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو گا، پھر وہ با او شاہ روم کے پاس پیغام بھیجے گا کہ میرے پاس ان دونوں سواروں کو بھیج دو جو قسطنطینیہ

بھاگ گئے ہیں، وہ ان کو واپس بھیج دے گا تو وہ جرم فرار کی سزا میں  
ذمہ دشمن کے دروازے پر ان کی گرد نہیں مار دے گا اور جامع مسجد ذمہ دشمن  
کے محراب میں اپنی ران پر ایک عورت کو بٹھائے گا اور جو اس پر  
تاپسندیدگی کا اظہار کرے گا، اس کو بھی قتل کر دے گا۔

اس وقت آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ اے لوگو! اللہ  
تعالیٰ نے تم سے طالموں، منافقوں اور ان کے ہمتواؤں کو دور کر  
کے تم پر امت محمدیہ کے ایک بہترین فرد کو امیر بنایا ہے چنانچہ تم اس  
سے مکہ میں جا کر طو، وہ مہدی ہیں اور ان کا نام احمد بن عبد اللہ  
ہے.....”<sup>۳۰</sup> (القول الختنی علامات المهدی المختار ص: ۳۰)

### فائدہ:

اس موقع پر یہ بات ذہن میں رہے کہ اگرچہ محدثانہ انداز سے روایات ظہور مہدیؑ و  
خرج سفیانی پر بحث کرنا اس وقت موضوعِ خن نہیں لیکن یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ  
امام مہدی کا ظہور اور خروج سفیانی وغیرہ صرف صحیح روایات سے ثابت نہیں بلکہ ان میں صحیح،  
حسن اور ضعیف وغیرہ تمام روایات شامل ہیں حتیٰ کہ اس میں موضوع روایات بھی موجود ہیں۔  
ابتدہ ان روایات کا مضمون اور ظہور مہدیؑ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار  
نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ آپ ”ظہور مہدیؑ“ کے متعلق عقیدے کی بحث ”میں تفصیل کے  
ساتھ پڑھائے ہیں۔

نیز امام مہدی رضوان اللہ علیہ کے متعلق مندرجہ ذیل نکات بھی ذہن میں رکھنا

ضروری ہیں:

- (۱) امام مہدیؑ کے ظاہر ہونے پر ہمارے عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نیز ظہور  
مہدیؑ اور خود امام مہدیؑ ہمارے عقائد میں سے کسی عقیدے میں تبدیلی کا تقاضا نہیں  
کریں گے۔ ابتدہ وہ احیاء سنت اور امانت بدعت کی طرف خوب متوجہ ہوں گے۔
- (۲) امام مہدیؑ نبی نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ معصوم ہوں گے، نیز وہ خود بھی اپنی

نبوت کے مدعا نہیں ہوں گے۔

(۳) ظہور مہدی ع کے وقت امام مہدی ع کو مانتا، ان کی بیعت و معاونت کرنا قرآن و سنت کی پیروی کے مخالف نہیں ہو گا بلکہ اس کے مطابق ہو گا۔

(۴) امام مہدی ع اپنے وقت موعود پر پیدا ہوں گے اور عام معقول کے مطابق ان کی نشوونما اور دینی ماحول کی تربیت ہو گی اور جس وقت اللہ کو متظور ہو گا اس وقت ان کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی وہی صلاحیتیں ان میں ودیعت فرمادیں گے کہ وہ لوگوں کی قیادت کر سکیں اور پھر ان کا "امام مہدی ع" کے عنوان سے ظہور ہو گا۔

## باب پنجم


**ظہور مہدیؑ ترتیب زمانی کے  
ساتھ واقعات کے تناظر میں**


جنگیں، امام مہدیؑ، کی تلاش، بیعت و خطبہ اولیٰ،  
 استحکام اسلام، پوری دنیا، کی حکمرانی، خروج دجال، نزول عیسیٰ  
 وفات مہدیؑ اور ان کی مدت حکومت وغیرہ

﴿ظہور مہدیؑ ترتیب زمانی کے ساتھ﴾

## واقعات کے تناظر میں

گذشتہ صفحات میں بیان شدہ تفصیلات کا خلاصہ یہ تکا کہ آخrzمانے میں امام مہدی رضوان اللہ علیہ کا ظہور برحق ہے، ان کا نام محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبد اللہ ہوگا، ان کا سلسلہ نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہو کر حضور ﷺ سے جاتے گا، ان کی ولادت باسعادت مدینہ طیبہ میں ہوگی، ان کی سیرت و اخلاق کریمانہ، حلیہ مبارک، بوقت ظہور علامات اور قبل از ظہور واقعات آپ بالتفصیل پڑھ چکے، اب آپ اس کو واقعات کے تسلیل کے ساتھ پڑھیں تو اس سے انشاء اللہ ایک نیا لطف حاصل ہوگا۔

لیکن یہ بات ضرور ذہن نشین رہے کہ واقعات کی اس ترتیب سے ظہور مہدیؑ کے لیے ماہ و سن کی تعمیں قطعاً تاروا اور غلط ہے اور اس مضمون کے مقصد کے خلاف ہے۔

دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا:

حضرت امام مہدیؑ کے ظہور سے قبل دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، لوگوں کو جب اس کی خبر ہوگی تو وہ اس کے حصول کے لیے دریائے فرات کی طرف روانہ ہوں گے، وہاں تین آدمی قائدانہ حیثیت سے اکٹھے ہوں گے اور دریائے فرات پر سونے کے اس پہاڑ کے حصول کے لیے یہ تینوں باہم اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کریں گے، ان تینوں میں سے ہر ایک کسی نہ کسی خلیفہ یا بادشاہ کا بیٹا ہوگا، ان تینوں کے لشکروں کے درمیان اس قدر شدید قتال ہوگا کہ ہر سو میں سے نانوے افراد قتل ہو جائیں گے۔

اور صحیحین کی روایت میں اس موقع پر امت محمدیہ کے لیے بارگاہ نبوت سے یہ بہایت نامہ موجود ہے کہ جو شخص اس موقع پر حاضر ہو، وہ اس سونے میں سے کچھ نہ لے۔

(بخاری ۱۱۹، مسلم ۲۷۳، ۲۷۴، ابو داؤد ۳۳۱۳، ابن ماجہ ۳۳۶)

اس قسم کی مزید روایات شیخ علی مقتی ہندیؒ کی کتاب البرہان ج ۲ ص ۲۳۲ تا ص ۲۳۳ ملاحظہ فرمائی جاسکتی ہیں جن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام مهدیؒ کے ظہور سے قبل دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہو گا چنانچہ اس کے لیے حدیث میں "یَحْسِرَ" کا لفظ ہے جس کی شرح میں امام نوویؒ تحریر فرماتے ہیں:

(بیو شک الفرات ان يحسر ای ينكشف لذهب ما نه)

(شرح سلم: ۱۸-۱۹)

"اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ دریائے فرات پانی خشک ہونے کی وجہ سے ظاہر ہو جائے گا۔"

امام مهدیؒ کے ظہور کی انتہائی قریبی علامت یہ ہو گی کہ سفیانی کا خروج ہو جائے گا جس کے بارے میں اس سے قبل تفصیلات بیان ہو چکیں تاہم واقعات کے تسلیم کو برقرار رکھنے کے لیے علامہ سید بر زنجیؒ کا بیان پڑھ لیجئے جو انہوں نے اپنی کتاب الاشاعہ کے ص ۲۰۲ پر تحریر فرمایا ہے۔

سفیانی کی ایقون اور اصحاب وغیرہ سے جنگ:

سفیانی کا خروج دمشق کی ایک وادی سے ہو گا جس کا نام وادیٰ یابس ہو گا..... پھر "علامہ خروجہ" کے تحت فرماتے ہیں کہ سفیانی کے خروج کی علامت یہ ہو گی کہ دمشق کی ایک بستی، جس کا نام شاید "حرستا" ہو گا، کوز میں میں دھنسا دیا جائے گا اور دمشق کی جامع مسجد کی مغربی جانب گر جائے گی۔

اور مصر سے ایقون کا، جزیرہ عرب سے اصحاب کا اور شام سے سفیانی کا خروج ہو گا۔ نیز مغرب کی طرف سے اعرج کندی کا خروج ہو گا، ان سب کے درمیان پورے ایک سال تک جنگ ہوتی رہے گی اور بالآخر سفیانی، ایقون اور اصحاب پر غالب آجائے گا اور اعرج کندی واپس بھاگ جائے گا اور راستے میں مردوں کو قتل کر کے عورتوں کو قیدی بنा

لے گا پھر وہ جزیرہ العرب میں پہنچے گا تو وہاں سفیانی قیس نای شخص سے نہ رآ زما ہو گا اور آخراً لامروہی غالب آئے گا اور ان کے جمع کردہ اموال پر تقابل ہو جائے گا، یوں وہ تینوں لشکروں پر غالب آجائے گا۔

### سفیانی کی ترک اور روم سے جنگ:

پھر سفیانی ترکی اور روم والوں سے قرقیسا کے مقام پر جنگ کرے گا اور حسب سابق ان پر بھی غالب آجائے گا اور زمین میں فساد برپا کر دے گا، عورتوں کے پیش چاک کر کے اس میں سے بچوں کو نکال کر قتل کر دے گا۔

اس دوران کچھ قریشی افراد بھاگ کر قسطنطینیہ چلے جائیں گے، جب سفیانی کو یہ بات معلوم ہو گی تو وہ روم کے فرمازوں کے پاس یہ پیغام بھیجے گا کہ ان کو میرے پاس واپس بھیج دو، وہ اس کے حکم کی تعییل میں ان لوگوں کو واپس بھیج دے گا اور سفیانی دمشق کے کسی شہر کے دروازے پر ان کی گرد نیں اڑا دے گا۔

### سفیانی کا فساد برپا کرنا:

کچھ عرصے کے بعد اس کے پیچے ایک جماعت شورش برپا کر دے گی۔ سفیانی ان کی طرف پڑے گا اور ان میں سے ایک گروہ کو قتل کر دے گا، بقیہ ماندہ لوگ ٹکست کھا کر خراسان میں پناہ گزین ہو جائیں گے، سفیانی اپنے گھوڑے کو ان کی تلاش میں رات کی سیاہی اور سیلا ب کے بہاؤ کی طرح دوڑائے گا اور اس دوران جہاں سے بھی گزرے گا وہاں تباہی پھیلا دے گا، قلعوں کو منہدم کر دے گا اور بغداد پہنچ کر ایک لاکھ آدمیوں کو بوت کے گھاٹ اتار دے گا، پھر کوفہ کی طرف روانہ ہو گا اور وہاں سامنہ ہزار افراد کو تہہ تھی کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنالے گا اور تمام شہروں میں اپنے فوجی پھیلا دے گا اور اہل خراسان کو بہر صورت تلاش کرنے پر مصر ہو گا۔ اور اسی دوران ایک لشکر مدینہ منورہ کی طرف بھی بھیجے گا جو اہل بیت نبوی میں سے ہر اس شخص کو پکڑے گا جس پر وہ قادر ہو گا اور بنو ہاشم کے مردوں اور عورتوں کو قتل کر دے گا۔ اس کے بعد سفیانی اس لشکر کے ایک حصے کو کوفہ

واپس بلائے گا اور باقی لوگ خنکلی میں منتشر ہو جائیں گے۔ (اس سے ملتے جلتے الفاظ مستدرک حاکم: ۵۶۵/۳ پر بھی موجود ہیں)

### امام مہدی کا مکہ میں روپوش ہونا:

اس وقت مہدی اور میہض (اور ایک روایت کے مطابق مہدی اور منصور) سات افراد کے ساتھ مکہ کرمند میں جا کر روپوش ہو جائیں گے، ادھر جب گورنر مدینہ کو ان کے فرار ہونے کی اطلاع ملے گی تو وہ مکہ کرمند کے گورز کو یہ خط لکھے گا کہ جب تمہارے پاس فلاں فلاں نام کے آدمی پہنچیں تو انہیں قتل کر دینا، گورز مکہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزرے گی اور وہ اس سلسلے میں اپنے مشیروں سے مشورہ کرہی رہا ہو گا کہ رات کے وقت وہ لوگ اس کے پاس پناہ حاصل کرنے کے لیے آپنچیں گے، گورز مکہ ان سے کہہ گا کہ تم یہاں بے خوف و خطر ہو کر اطمینان سے رہو۔

### گورنر مکہ کا دھوکہ دینا:

اس کے بعد وہ نجات کیا سوچ کر ان میں سے دو آدمیوں کو قتل کرنے کے لیے اپنے بندے بھیج دے گا چنانچہ ان میں سے ایک قتل ہو جائے گا اور دوسرا بھی جائے گا اور وہ اس طرح کہ وہ لوگ نفس زکیہ کو مجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل کر دیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کو اور تمام آسمان والوں کو اس دھوکہ دہی پر غصہ آجائے گا۔

ادھر وہ دوسرا شخص جو قتل ہونے سے بچ گیا ہو گا اپنے ساتھیوں کو آکر خبر دے گا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے چنانچہ وہ لوگ وہاں سے نکل کر طائف کے ایک پہاڑ پر پڑا ڈالیں گے اور وہاں رہ کر لوگوں کو پیغامات کے ذریعے جہاد کی ترغیب دیں گے، لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے، جب اہل مکہ کو اس کی خبر ہو گی تو وہ ان سے جنگ کریں گے اور یہ لوگ اہل مکہ کو شکست دے کر مکہ کرمندہ میں داخل ہو جائیں گے۔

## حج کی ادا یتیگی کا امیر کے بغیر ہونا:

اس دوران چونکہ گورنر مکہ قتل ہو چکا ہو گا اور حج کا موسم بھی قریب ہو گا اس لیے اس سال لوگ بغیر امیر کے حج کریں گے، اور جب مٹی میں پہنچیں گے تو کسی بات پر لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے کتوں کی طرح ایک دوسرے پر آپزیں گے، خوب قتل و قتال ہو گا، حجاج کرام کو لوٹا جائے گا اور جمرہ عقبہ کے پاس خوب خون ریزی ہو گی۔

اسی دوران پوری دنیا میں سے سات بڑے بڑے علماء بغیر کسی سابقہ تیاری کے مکہ مکرمہ آپنچیں گے اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر تین سو دس کچھ اور افراد نے بیعت کر رکھی ہو گی، یہ علماء مکہ مکرمہ میں جمع ہو کر ایک دوسرے سے دریافت کریں گے کتن کیوں آئے ہو؟ ہر ایک کا یہی جواب ہو گا کہ ہم تو اس آدمی کی تلاش میں آئے ہیں جس کے ہاتھ پر یہ فتنے ختم ہوں گے اور قسطنطینیہ فتح ہو گا، نیز ہم اس شخص کو اس کے والدین کے نام سے پہچان لیں گے۔

## سات بڑے بڑے علماء کا امام مہدی عجیب کو تلاش کرنا:

چنانچہ وہ ساتوں علماء اس پر متفق ہو کر امام مہدی عجیب کو تلاش کریں گے اور جب ایک شخص میں مہدی موعود کی تمام علائیں پائیں گے تو اسے کہیں گے کہ آپ فلاں بن فلاں ہیں؟ وہ شخص جواب میں کہے گا کہ میں تو ایک انصاری آدمی ہوں اور یہ کہہ کرو ہاں سے چلا جائے گا۔ وہ علماء دوسرے جانتے والوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ وہی تو تمہارا گوہ مطلوب ہے، لیکن اس دوران امام مہدی عجیب مدینہ منورہ جا چکے ہوں گے، وہ لوگ ان کی تلاش میں مدینہ منورہ روانہ ہو جائیں گے، امام مہدی عجیب کو جب اس کی اطلاع ملے گی تو وہ مکہ مکرمہ آجائیں گے، غرض اس طرح مکہ سے مدینہ کی طرف ان کے تین چکر لگیں گے۔

فائدہ:

اس مقام پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعات کی اس تفصیل سے یہ بات

معلوم ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی رضوان اللہ علیہ کی بیعت جس سال ہوگی، اسی سال منی میں خون ریزی ہوگی اور اسی سال چند ایام کے بعد ماہ محرم الحرام میں عاشوراء کی رات کو ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور اس دوران وہ ساتوں علماء مدینہ کے تین چکر بھی لگائیں گے حالانکہ مدینہ اور مکہ کے درمیان کافی طویل فاصلہ ہے تو اس مختصر سی مدت میں یہ کیسے ممکن ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل اس قدر تیز رفتار سواریوں کی موجودگی میں یہ اعتراض کچھ حقیقت نہیں رکھتا جبکہ پوری دنیا سمٹ کر ایک محلہ بن چکی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ یہ تمام حضرات اولیاء اللہ میں سے ہوں گے، اگر کرامۃ ان کے لیے زمین کی دوری کو پیٹ کر طویل فاصلے مختصر کر دیئے جائیں تو یہ بھی کوئی بعید نہیں۔

### امام مہدیؑ کا حجر اسود کے پاس ملنا:

اوھر جب مدینہ نورہ کے گورنر کو پتہ چلے گا کہ لوگ امام مہدیؑ کی تلاش میں ہیں تو وہ مکہ مکرمہ میں موجود بناہم کو تلاش کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کرے گا، اسی اثناء میں وہ ساتوں علماء تیسری مرتبہ امام مہدیؑ کو مکہ مکرمہ میں حجر اسود کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھایا تو پھر ہمارا گناہ بھی آپ پر ہو گا اور ہمارا خون بھی، یعنی آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ غیانی کا لشکر ہماری تلاش میں ہے جس کا سردار قبیلہ حزم کا ایک آدمی ہے، اور وہ علماء امام مہدیؑ کو بیعت نہ کرنے پر قتل تک کی دھمکی دی دیں گے۔

کتاب النہن کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ لوگ کسی بہترین قائد کی تلاش میں ہوں گے اور تلاش کرتے کرتے امام مہدیؑ تک جا پہنچیں گے جو کعبہ کے ساتھ اپنے چہرے کو چپکا کر رہے ہوں گے، راوی حدیث حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ گویا اس وقت میں ان کے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہوں۔ لوگ ان سے بیعت کی

درخواست کریں گے تو وہ فرمائیں گے کہ تم پر افسوس ہے کہ اس قدر وعدہ خلافی اور خون ریزی کے بعد میرے پاس آئے ہو؟

### فائدہ:

اس روایت میں تو سات علماء کا ذکر نہیں لیکن دوسرے مقام پر ص ۲۳۱-۲۳۲ پر ۲۳۲-۲۳۳ نے بھی ان علماء کا ذکر کیا ہے اس لیے اس روایت کو بھی انہی سات علماء پر محمول کیا جائے گا۔

### امام مہدیؑ کا بیعت لینا:

مجبور ہو کر امام مہدی رضوان اللہ علیہ چبر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور ان سے بیعت لیں گے گویا یہ خصوصی بیعت ہو گی، پھر وہ اسی دن جبکہ عاشوراء کی رات ہو گی، عشاء کی نماز کے وقت حضور ﷺ کے جھنڈے، قیص اور تکوار کے ساتھ ظہور فرمائیں گے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر دور کعت نماز ادا فرمائیں گے اور پھر منبر پر چڑھ کر با آواز بلند یوں خطاب فرمائیں گے ”کاے لوگو! میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں“ اس کے بعد ایک طویل خطبہ ارشاد فرمائیں گے جس میں لوگوں کو سنتوں کو زندہ کرنے اور بدعتوں کو ختم کرنے کی ترغیب دیں گے۔

### امام مہدیؑ کا پہلا خطبہ:

امام مہدیؑ کے اس پہلے خطبے کے کچھ الفاظ کتاب الفتن ص ۲۳۱ پر اس طرح مذکور ہیں۔

”کاے لوگو! میں تمہیں اللہ (جس کو ہم بھلا چکے ہیں) یاد کروانا چاہتا ہوں اور یہ کہ تم نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ

اتمام جھت کر چکا، اس نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا اور تمہیں یہ حکم دیا کہ اس کے ساتھ کسی کوششیک نہ ظہرا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر حافظت کرو۔ جن چیزوں کو قرآن کریم نے زندہ کرنے کا حکم دیا ہے تم انہیں زندہ کرو، جن چیزوں کو چھوڑنے اور ختم کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ترک کر دو اور بدایت کے کاموں پر ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، اور تقویٰ پر ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ اس لیے کہ دنیا کے فتاویٰ و احوال کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ رخصت ہونے کے قریب ہے اس لیے میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے، باطل کو ختم کرنے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی طرف دعوت دینا ہوں۔“

اور ایک رایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ:

”اے لوگو! امت محمدیہ کو مصائب نے آ گھیرا، خاص طور پر حضور ﷺ کے خاندان والوں کو اور ہم مغلوب ہو گئے اور ہمارے خلاف کفار نے بغاوت کر کے ہم پر چڑھائی کر دی۔“

پھر اہل بدر کی تعداد کے برابر ۱۳۱۳ افراد کے ساتھ ظہور کریں گے اور ۱۳۱۳ افراد ہی طالوت کے ساتھ بھی نکلے تھے، جب انہوں نے جالوت کے مقابلے کا ارادہ کیا تھا اور نہر عبور کی تھی۔

### امام مہدیؑ کے اعوان والنصار:

حضرت امام مہدیؑ کے ساتھ یہ ۱۳۱۳ افراد شام کے ابدال، عراق کے عصائب اور مصر کے نجائب پر مشتمل ہوں گے جو رات کے وقت شب زندہ دار اور دن کے وقت شہسوار ہوں گے، جب ان کے پاس گورنمنٹ نہ کا بھیجا ہو انکر پہنچ گا تو یہ اس سے قبال کر

کے اسے نکست سے دوچار کر دیں گے اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہوں گے اور مدینہ منورہ کو ان کے پیچے سے آزاد کر لیں گے۔

## ابداں، عصائب اور نجباء سے کن لوگ مراد ہیں؟

ابداں اور عصائب وغیرہ الفاظ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں بھی آئے ہیں، ان کی تشریح ملک علی قاریؒ کی زبانی ملاحظہ ہو:

”ابداں، بدل کی جمع ہے، ان کو ابداں اس لیے کہتے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو بدل کر مقرر فرمادیتے ہیں۔ جو ہری کہتے ہیں کہ ابداں، صلحاء کی وہ جماعت ہے جن سے دنیا بھی خالی نہیں ہوتی جوں ہی ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے، دوسرا اس کی جگہ تعینات کر دیا جاتا ہے، اُن دریڈ نے کہا ہے کہ ابداں، بدل کی جمع نہیں بلکہ بدیل کی جمع ہے جیسے شریف کی جمع اشرف، اور ان کو ابداں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرتے رہتے ہیں اور پہلی جگہ ان کی شبیہ قائم کر دی جاتی ہے۔ قاموس میں ہے کہ ابداں وہ قوم ہے جن سے اللہ عز و جل زمین کو قائم رکھتے ہیں، ایسے افراد کل ستر ہوتے ہیں جن میں سے چالیس صرف شام میں رہتے ہیں اور تیس شام کے علاوہ دیگر مقامات پر رہتے ہیں۔“

یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ شام سے صرف دمشق مراد نہیں بلکہ شام اور اس کے ارد گرد کا پورا علاقہ مراد ہے۔

اسی طرح ان حضرات کو ابداں کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اخلاقی رذیلہ کو بدل کر اخلاقی حصہ اختیار کر لیے یا یہ کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ قطب حقانی شیخ

عبد القادر جیلانیؒ ”ان کو ابدال کہنے کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے ارادے کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا تو اس کا بدلہ ان کو یہ عطا ہوا کہ ان کی مرضی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گئی، اب ان لوگوں کے حق میں یہ چیز بھی گناہ کے زمرے میں آتی ہے کہ وہ ارادہ خداوندی کے ساتھ کسی کو بھول کر یا غلبہ حال میں آ کر کر شریک بناؤیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی دلگیری فرماتے ہیں تو وہ اس سے باز آ کر رب ذوالجلال سے استغفار کرتے ہیں اور شاید عارف باللہ ان فارض نے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے:

ولو خطرت لى فى سواك اراده

على خاطري سهوا حكمت بر ذاتي

اگر میرے دل میں بھولے سے بھی تیرے علاوہ کسی اور کے بارے میں کوئی ارادہ کھلکھلے تو میں اپنے مرتد ہونے کا فیصلہ کروں گا۔

اور اہل عرب کا یہ مقولہ ہے ”حسنات الابرار میثبات المقربین۔“

### عصائب:

”نهایہ میں لکھا ہے کہ عصائب، عصابة کی جمع ہے اس کا اطلاق دس سے لے کر چالیس تک کی جماعت پر ہوتا ہے، اسی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ”ابdal شام میں ہوتے ہیں۔ نجاء مصر میں اور عصائب عراق میں۔“

”عصائب عراق میں“ اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ عراق جنگوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد زہدوں کی ایک جماعت ہے جن کا نام ہی عصائب ہے اس لیے کہ حضرت علیؓ نے اس کو ابدال اور نجاء کے

ساتھ ذکر کیا ہے۔

ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں اپنی سند سے حضرت ابن عمرؓ سے حضور ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میری امت کے بہترین لوگ ہر زمانے میں پانچ سو افراد ہوتے ہیں اور چالیس ابدال ہوتے ہیں، نہ وہ پانچ سو کم ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ چالیس۔ اس لیے کہ جب ان چالیس میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پانچ سو میں سے ایک کو اس کی جگہ مقرر فرمادیتے ہیں۔

صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں بتائیے (کہ وہ کسی قسم کے اعمال کر کے اس رتبہ علیاً تک پہنچے) آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں، اپنے ساتھ برآ کرنے والوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دینے ہوئے میں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدری کرتے ہیں۔“

اور ابو نعیم ہی کی سند سے اس سلسلے کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے بھی مردی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تخلوق میں سات بندے ایسے ہیں..... کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندگی اور موت دیتے ہیں، بارش بر ساتے، پیداوار اگاتے اور مصائب کو روکتے ہیں، حضرت ابن مسعودؓ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے لوگوں کو زندگی اور موت کیسے دیتے ہیں؟ فرمایا اس طرح کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے امت کی کثرت کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمادیتے ہیں، ظالموں کے خلاف بدعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں تھس نہس فرمادیتے ہیں، پانی طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش بر سادیتے ہیں، دعا کرتے

ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین کی پیداوار اگادیتے ہیں، سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مصائب کو دور فرمادیتے ہیں۔” (مرقة: ج ۱۰ ص ۷۶-۷۷)

اگر خوف طوالت دامن کیرنہ ہوتا تو ابھی ملا علی قاریؒ کا تبصرہ نقل کرنا باقی رہ گیا ہے اس کو بھی ذکر کرتا لیکن اسی پر اکتفاء کرتے ہوئے آئیے اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹ چلیں کہ حضرت امام مہدیؑ کے ساتھ شام کے ابدال، عراق کے عصائب بطور اعوان و انصار کے ہوں گے۔

### مقام بیداء میں لشکر سفیانی کا دھنسنا:

جب سفیانی کو حضرت امام مہدیؑ کے ظہور کی اطلاع ملے گی تو وہ کوفہ سے ایک لشکر مدینہ کی طرف بھیجے گا جو تین دن تک مدینہ منورہ میں خوب قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھے گا اور امام مہدیؑ کی تلاش میں ہوگا، پھر وہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہو گا اور جب مقام بیداء میں پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں ڈھنس جائے گا۔ (مسلم شریف حدیث نمبر ۷۲۳۰، ۷۲۳۲، ابن ماجہ ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۳) صرف دو آدمی پیچیں گے جن میں سے ایک تو سفیانی کے پاس یہ بڑی خبر لے کر پہنچے گا اور دوسرا حضرت امام مہدیؑ کو جا کر یہ خوشخبری سنائے گا، جب امام مہدیؑ اس خبر کو سیئیں گے تو فرمائیں گے کہ ہاں! اب خروج کا وقت آیا ہے چنانچہ وہ وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچیں گے اور بنو ہاشم کے جو لوگ قید ہو چکے ہوں گے انہیں آزاد کرائیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری سر زمین جا زکو فتح کر ڈالیں گے۔

### اہل خراسان پر کیا بیتی؟

اس سے قبل آپ یہ پڑھ آئے ہیں کہ حضرت امام مہدیؑ کے ظہور سے قبل کچھ لوگ خراسان میں روپوش ہو جائیں گے جن کی تلاش سفیانی برابر جاری رکھے گا لیکن ان پر قابضتہ پائے گا کہ اس اثناء میں امام مہدیؑ کا ظہور ہو جائے گا۔

حضرت امام مہدیؑ کے ظہور کے بعد ان کی مدد اور اہل خراسان کی نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ ماوراء النہر کے علاقے سے حارث یا حارث نای خُنُس کو پیدا فرمائیں گے، وہ

ایک لٹکر تیار کر بے گا جس کے ہر اول کافر منصور نبی شخص ہو گا اور وہ حضور ﷺ کے اہل بیت کو دیے ہی پناہ دے گا جیسے قریش نے قول اسلام کے بعد حضور ﷺ کو دی تھی اور مجھوں نے حدیث ہر مسلمان پر اس کی مدد کرتا واجب ہو گا۔

وہ اہل خراسان کو لے کر سفیانی کے لٹکر پر حملہ کرے گا اور ان کے درمیان کئی جھڑپیں ہوں گی چنانچہ ایک جھڑپ توں میں ہو گی، ایک دلاب الری میں اور ایک تخوم زریغ میں۔ (کتاب المختصر ص ۲۸ پر مذکورہ جگہوں کے نام اس طرح لکھے ہوئے ہیں ہیں قوم، دولات الری اور تخوم زریغ۔ واللہ اعلم بالصواب) لیکن جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جھڑپوں اور جنگوں کا یہ سلسلہ طویل ہوتا جا رہا ہے تو وہ بتاہشم کے ایک آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے جس کی دامیں ہتھیلی میں تل کاشتہن ہو گا اور وہ امام مہدیؑ کا حقیقی یا پچازاد بھائی ہو گا (اور دوسرا قول ہی راجح ہے) اور اللہ تعالیٰ اس پر یہ معاملہ آسان فرمادیں گے۔

### خراسان سے سیاہ جھنڈوں کے ساتھ روانگی:

امام مہدیؑ کا پچازاد بھائی اس وقت شرق کے آخری کونے میں ہو گا اور خراسان و طالقان کے لوگوں کو لے کر چھوٹے چھوٹے سیاہ جھنڈوں کے ساتھ روانہ ہو گا اور اس کے ہر اول کافر بنتیم کے موالي میں سے متوسط قد و قامت والا، زردی مائل رنگ اور ہلکی ڈاڑھی والا (جو صرف ٹھوڑی پر ہو گی) ایک شخص شعیب بن صالح نبی ہرگا، وہ پانچ ہزار افراد کے ساتھ نکلے گا اور اس قدر جی دار ہو گا کہ اگر اس کے راستے میں مضبوط پہاڑ بھی حائل ہو جائیں تو وہ ان کو بھی اپنے راستے سے ہٹا دے گا اور امام مہدیؑ کے لیے آسمانی کر دے گا اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿إِذَا سَمِعْتُمْ بِرَايَاتِ سُودَاءِ أَقْبَلَتْ مِنْ خَرَاسَانَ فَاتُوهَا﴾

• ولو جبوا على الثلوج (ترندي: ج ۲ ص ۵۶)

”جب تمہیں خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈوں کے آنے کی خبر“

ملے تو تم ان کے پاس چلے جانا اگرچہ برف پر چل کر جانا پڑے۔“

### سفیانی کے ساتھ جنگیں:

الغرض! اس کا سفیانی کے لشکر سے آمنا سامنا ہو گا اور ان کے درمیان انتہائی شدید جنگ ہو گی پھر بحثان کی طرف سے اس ہاشمی کی امداد کے لیے ایک بڑا لشکر آپنے گا جس کا سردار بنو عدی میں سے ہو گا اور یوں اللہ تعالیٰ ”ری“ کی اس جنگ میں اپنے دوستوں کی مدد فرمائے گا۔

”ری“ کی اس جنگ کے بعد ”مائن“ میں جنگ ہو گی پھر ”عاقر قوفا“ میں ایک صلیبی جنگ ہو گی اور سیاہ جہندے آ کر ایک پانی والی جگہ ( غالباً دریائے دجلہ) کے قریب پڑا اور ڈالیں گے، ادھر کوفہ میں جب سفیانی کے لشکر یوں کو ان کے آنے کی اطلاع ملے گی تو وہ بھاگ جائیں گے اور مسلمان کو نہ پہنچ کر تمام بنو ہاشم کو آزاد کرالیں گے، اس کے کچھ عرصہ بعد کوفہ کے کسی علاقے سے ایک قوم نکلے گی جس کا نام ”عصب“ ہو گا، ان کے پاس تھوڑا سا اسلحہ ہو گا، ان میں بصرہ کے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو سفیانی کے لشکر کو خیر باد کہہ چکے ہوں گے وہ ان کے ساتھ آ میں گے۔

جب بنو ہاشم کو فد کے قید یوں کو آزاد کرالیں گے تو ان میں سے کچھ لوگوں کو سیاہ جہندے دے کر (جو کہ بطور علامت کے ہوں گے) امام مہدیؑ کے پاس بیعت کے لیے بھیجیں گے چنانچہ وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوں گے اور سرز میں حجاز میں امام مہدیؑ کو پالیں گے اور ان سے بیعت کر کے ان کو اپنے ساتھ شام لے آئیں گے۔

### کلمہ حق کہنے کی سزا:

اس طرف تو یہ ہو رہا ہو گا اور دوسری طرف سفیانی زمین میں فساد برپا کیے ہوئے ہو گا حتیٰ کہ ایک عورت سے دن کے وقت دمشق کی جامع مسجد میں شراب کی ایک مجلس میں بد کاری کی جائے گی، اسی طرح ایک عورت سفیانی کی ران پر آ کر بیٹھ جائے گی جبکہ وہ جامع دمشق کی محراب میں بیٹھا ہو گا، اس وقت ایک غیرت مند مسلمان سے مسجد

کی یہ بے حرمتی اور یہ کریمہ منظر دیکھانہ جائے گا اور وہ کھڑا ہو کر کہے گا کہ افسوس ہے تم پر، ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہو؟ یہ ناجائز ہے۔ ظاہر ہے کہ سفیانی کو حق کی یہ بات کڑوی لگئی گی اور وہ اس کو کلمہ حق کہنے کی پاداش میں موت کے گھاث اتار دے گا اور صرف اسی کو نہیں بلکہ جس نے بھی اس کی تائید کی ہوگی اس کو بھی قتل کروے گا۔

اس وقت آسمان سے ایک منادی پکارے گا کہ اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تم سے خالموں، منافقوں اور ان کے ہمنواؤں کو دور کر کے امت محمدیہ کے بہترین فرد کو تم پر امیر مقرر کیا ہے لہذا تم مکہ مکرمہ میں ان سے جا کر مل جاؤ (ان کے لئکر میں شامل ہو جاؤ) کہ ان کا نام احمد بن عبد اللہ ہے اور وہی مہدی ہیں۔

### امام مہدیؑ کی کرامت:

امام مہدیؑ ان واروین سے بیعت لینے کے بعد اپنی افواج کو لے کر آہستہ آہستہ واوی قری کی طرف روانہ ہوں گے۔ وہاں ان کے پچاڑ ابھائی بارہ ہزار کے لئکر کے ساتھ ان سے آ کر ملیں گے اور کہیں گے کہ اے برادر عُمَّ! میں اس امر خلافت کا تم سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میں حضرت حسنؑ کی اولاد میں سے ہوں اور میں ہی مہدی ہوں، امام مہدیؑ ان سے کہیں گے کہیں! مہدی تو میں ہوں! حسني کہیں گے کہ آپ کے پاس کوئی نشانی بھی ہے جس سے آپ کا مہدی ہونا معلوم ہو جائے؟ اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرلوں؟ اس پر امام مہدیؑ ایک اڑتے ہوئے پرندے کی طرف اشارہ فرمائیں گے، وہ ان کے سامنے آگرے گا اور زمین کے ایک کونے میں ایک خلک ٹھنی گاڑ دیں گے وہ اسی وقت سر بز ہو کر برگ وبارلانے لگے گی۔ یہ کرامت دیکھ کر حسني کہیں گے کہ اے برادر عُمَّ! یہ آپ ہی کا منصب ہے اور آپ ہی کو مبارک ہو اور یہ کہہ کر امام مہدیؑ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔

### سفیانی کا بیعت کرنا:

حسنی سے بیعت لینے کے بعد امام مہدیؑ وہاں سے کوچ کریں گے اور شام و

حجاز کے درمیان شام کی سرحد کے قریب جا کر پڑا اور ڈالیں گے، وہاں پہنچ کر لوگ ان سے سفیانی پر لشکر کشی کا مطالبہ کریں گے لیکن امام مهدیؑ عجلت کو ناپسند سمجھیں گے اور فرمائیں گے کہ میں سفیانی کے پاس اپنی اطاعت کا پیغام بھیجا ہوں، اگر اس نے میری اطاعت کرنے سے انکار کر دیا تو میں تمہاری خواہش کے مطابق اس پر لشکر کشی کروں گا چنانچہ امام مهدیؑ سفیانی کو ایک خط لکھیں گے (جس میں اس سے اپنی بیعت و اطاعت کا مطالبہ کریں گے) جب وہ خط سفیانی کو ملے گا تو وہ اپنے مشیروں کے مشورے سے امام مهدیؑ کی بیعت کر لے گا اور وہاں سے روانہ ہو کر بیت المقدس جا پہنچ گا۔

پھر امام مهدیؑ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے الی شام میں سے کسی کے پاس بھی ذمیوں کی زمین نہیں رہنے دیں گے بلکہ ان سے لے کر ان کے ذمی مالکوں کے حوالے کر دیں گے خواہ وہ زمین کا چھوٹا سا گلزار ہی کیوں نہ ہو اور تمام مسلمانوں میں جہاد کی روح پھونک دیں گے۔

### عہد شکنی:

سفیانی کی بیعت کے بعد قبیلہ بنو کلب کا کنانہ نامی ایک شخص اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے کر سفیانی سے ملاقات کرے گا اور اس سے کہہ گا کہ ہم نے تیری بیعت کی اور تیری مدد کی یہاں تک کہ جب تو زمین کا بادشاہ بن گیا تو تو نے اس آدمی یعنی مهدیؑ کی بیعت کر لی؟ اور اس کو عاردلا تے ہوئے یہ بھی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک قیص پہنائی تھی تو نے اس کو کیوں اتار دیا؟ سفیانی کہے گا کہ میں تو مهدیؑ کی بیعت کر چکا ہوں اور ان کا حامی بن کر رہنے کا وعدہ کر چکا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اپنا وعدہ توڑ دوں؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں! تم اپنا وعدہ توڑ دو، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہی، بنو عامر کے تمام افراد بھی تمہاری مدد کریں گے اور ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ کوئی آدمی بھی میدان جنگ سے پیٹھ نہیں پھیرے گا۔ سفیانی ان کی باتوں میں آ کر بارادہ جنگ وہاں سے کوچ کر جائے گا اور اس کے ساتھ تمام بنو عامر بھی روانہ ہو جائیں گے۔ اور ایک

روایت میں یہ ہے کہ امام مہدیؑ سے بیعت کرنے کے تین سال بعد سفیانی عہد شکنی کرتے ہوئے اس بیعت کو خود ہی توڑ دے گا۔

### سفیانی کا قتل:

امام مہدیؑ کو جب اس لفظ عہد و بیعت کی اطلاع ملے گی تو وہ اپنے جھنڈے سمیت اس پر لٹکر کشی کریں گے۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں سب سے بڑے جھنڈے کے ماتحت سوا فراد ہوں گے۔ سفیانی کا لٹکر یعنی قبلہ بنو کلب کے لوگ بھی (جود رحقیقت سفیانی کو لفظ عہد پر برائی کرنے والے تھے) صفت بندی کر لیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ سفیانی کے لٹکر میں سوار اور پیادہ ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ جب دونوں لٹکر آئنے سامنے صفت بستہ ہو جائیں گے تو لا ای شروع ہو جائے گی اور شدید جنگ کے بعد قبلہ بنو کلب کے لوگ پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے، امام مہدیؑ کے لٹکری انہیں قتل کرنا شروع کر دیں گے، مال غنیمت میں بہت سے قیدی بھی ہاتھ آئیں گے حتیٰ کہ ایک کنواری دو شیزہ باندی کو آٹھ درہم کے بد لے بیچا جائے گا۔

سفیانی پکڑ کر قید کر لیا جائے گا اور اسے امام مہدیؑ کے پاس لے جایا جائے گا، وہ اسے ایک کنیسہ کے پاس موجود ایک چٹان پر بکری کی طرح ذبح کروادیں گے۔

### مال غنیمت کی تقسیم:

سفیانی کے قتل سے فراغت کے بعد امام مہدیؑ مال غنیمت تقسیم فرمائیں گے، اسی موقع کے لیے حضور ﷺ کا یہ فرمان مبارک ہے:

﴿الخائب من خاب يومئذ من غنيمة كلب ولو بقال،  
قيل يا رسول الله! كيف يغنمون أموالهم ويسبون  
ذراريهم وهم مسلمون؟ قال ﷺ يكفرون  
باستحلالهم الخمر والزنا﴾ (الأشاعر: ص ۲۱۲)

”اس دن وہ شخص سب سے بڑا محروم ہو گا جو بنو کلب کے مال

غیمت سے محروم رہا (اس مال غیمت میں سے کچھ نہ کچھ ضرور لے) اگرچہ اونٹ کو باندھنے کی رسی ہی کیوں نہ ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ لوگ ان کے اموال کو غیمت اور بچوں کو ان کے مسلمان ہونے کے باوجود کینے قیدی بنالیں گے؟ فرمایا کہ وہ شراب اور زنا کو حلال سمجھنے کی وجہ سے کافر قرار دیئے جائیں گے۔“

### استحکام اسلام:

سفیانی کے قتل کے بعد اسلام کو استحکام نصیب ہو گا، امام مہدیؑ کے لیے زمین کو پیش دیا جائے گا، زمین کے تمام حکمران ان کی اطاعت میں داخل ہو جائیں گے، پھر امام مہدیؑ ہندوستان کی طرف ایک لشکر بھیجن گے، وہ لشکر کامیاب ہو گا اور ہندوستان کو فتح کر کے وہاں کے حکمرانوں کو پاپہ زنجیر امام مہدیؑ کی خدمت میں پیش کرے گا، ہندوستان کے خزانے بیت المقدس لے جائے جائیں گے اور ان سے بیت المقدس کی تزیین و آرائش کا کام لیا جائے گا اور اسی طرح کئی سال گزر جائیں گے۔

### فائدہ:

یاد رہے کہ اس مقام پر ہندوستان سے صرف اثیار مراوئیں بلکہ اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ کیونکہ ہندوپاک کی تقسیم تو اب ہوئی ہے، آج سے صرف سانچھ سال چیچپے چلے جائیں تو آپ کو یہ تقسیم نظر نہیں آئے گی۔

### جنگ عظیم:

آپ پڑھ آئے ہیں کہ حضرت امام مہدیؑ، سفیانی کو بغاوت کے جرم میں قتل کرادیں گے اور زمین پر امن و امان قائم کر دیں گے، اسی امن و امان کے سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہو گی کہ روئی ان سے صلح کی درخواست کریں گے جس کی مدت بعض روایات

کے مطابق نو سال ہو گی اور ایک روایت کے مطابق سات سال ہو گی۔ امام مہدیؑ اس درخواست کو قبول فرمائیں گے اور صلح کی نوعیت یہ طے پائے گی کہ اگر مسلمان کبھیں جہاد کے لیے جائیں گے تو روی ان کی مدد کریں گے اور اگر رومیوں کو مسلمانوں کی امداد کی ضرورت پیش آئی تو مسلمان ان سے تعاون کریں گے چنانچہ اسی طرح کے ایک موقع پر مسلمان اور روی اکٹھے ہوں گے، مسلمانوں کو فرقی خلاف پر فتح حاصل ہو جائے گی اور وہ مال غنیمت لے کر واپس آرہے ہوں گے کہ راستے میں مردج ذی تکول کے مقام پر ایک روی صلیب کی بجے کاری کرتے ہوئے کہے گا کہ دشمن کے مقابلے میں ہمیں صلیب کی وجہ سے فتح حاصل ہوئی ہے۔ ایک مسلمان یہ سن کر اس کے جواب میں کہے گا کہ ہرگز نہیں! بلکہ اللہ نے ہمیں غلبہ اور فتح سے ہمکنار فرمایا ہے۔

یوں اس روی اور مسلمان کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے گی، مسلمان رومیوں کی صلیب گردے گا اور صلیب کا گرنا تو اس کے لیے گویا نیکست کی علامت ہو گا، چنانچہ روی غصہ میں آ کر اس مسلمان کو قتل کر دے گا اور یوں فتنہ کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ مسلمان اپنے اسلحے کو لے کر رومیوں پر جا پڑیں گے اور ان سے اپنے مسلمان بھائی کا بدلہ لیں گے لیکن سب کے سب راہ خدا میں شہادت کے معزز شرف سے مشرف ہو کر بارگاہ خداوندی میں پہنچ جائیں گے۔ (ابوداؤد: حدیث نمبر ۲۲۹۲)

## ۹۶۰۰۰ فوج کا روانہ ہونا:

مسلمانوں کی اس جماعت کو شہید کرنے کے بعد رومیوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں سے نکر لینے کے خواب دیکھنے لگیں گے چنانچہ وہ اپنے بادشاہ سے جا کر کہیں گئے کہ عرب کے بدترین لوگوں سے تو ہم نے آپ کی جان چھڑا دی اور ان کے بھادروں، سورماوں کو قتل کر دیا، اب آپ کس انتظار میں ہیں؟ بادشاہ روم ان کے توجہ دلانے پر فوج اکٹھی کرنا شروع کر دے گا اور صرف نو مہینوں میں اتنی بڑی فوج جمع کر لے گا کہ وہ ۸۰ دستوں پر مشتمل ہو گی اور ہر دستے میں ۱۲ ہزار سپاہی ہوں گے یعنی ۹۶۰۰۰

فوجوں کو لے کر روانہ ہوگا اور مقام اعماق یا دا بق میں پڑا وڈا لے گا۔

### رومیوں کا مطالبہ اور لشکرِ اسلام کے تین حصے:

مسلمانوں کو رومیوں کے اس لشکر کی اطلاع ملے گی تو مدینہ منورہ سے انتہائی بہترین افراد پر مشتمل ایک وہ جماعت جو امام مہدیؑ کی معیت میں واد جہاد دے چکی ہو گی، نکلے گی اور نمکورہ مقام پر پہنچ کر صرف بندی کر لے گی اور روی بھی صرف بستہ ہو جائیں گے، اس کے بعد رومیوں میں سے ایک آدمی اپنی صرف سے نکل کر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ گا کہ تم نے ہمارے جو آدمی قید کیے تھے اور وہ ہمارے دین سے نکل کر تمہارے دین میں داخل ہو چکے ہیں اور اب تمہارے ساتھ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم صرف ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں تم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، مسلمان اس کے جواب میں کہیں گے کہ ایسا ہر گز نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن چکے ہیں اس لیے ہم انہیں اکیلانہیں چھوڑ سکتے۔

اس پر جنگ شروع ہو جائے گی اور مسلمان تین گروہوں میں بٹ جائیں گے۔

(۱) ایک تہائی لشکر تو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے۔

(۲) ایک تہائی لشکر شہید ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے۔

(۳) ایک تہائی لشکر کو فتح نصیب ہوگی، یہ آئندہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو سکیں گے۔  
(مسلم شریف: ۷۲۸)

### شام پر رومیوں کا قبضہ:

واقعہ کی یہ تفصیل تو سید بر زنجیؑ کے بیان کے مطابق ہے جبکہ شیخ نصیم بن حمادؓ نے

کتاب الفتن میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے یہ روایت اس طرح مرفوعاً نقل کی ہے کہ سفیانی کی ہلاکت اور قتل کے بعد مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان صلح ہو جائے گی اور اسی صلح کی بنیاد پر مسلمان رومیوں کے ساتھ مل کر ان کے دشمن کے خلاف لڑیں گے اور اس قدر جی داری کے ساتھ لڑیں گے کہ دشمن کو پیچھے پھیر جانے پر مجبور کر دیں گے اور دشمن سے مال غنیمت حاصل کر لیں گے، روئی بھی مسلمانوں کو مال غنیمت میں سے حصہ دیں گے۔

کچھ عرصے کے بعد مسلمان اہل فارس سے جنگ کریں گے تو روئی ان کی مدد کریں گے اور اہل فارس کو قتل کر کے ان کے بچوں کو قیدی بنالیں گے، جنگ میں کامیابی سے فارغ ہونے کے بعد روئی مسلمانوں سے مال غنیمت تقسیم کرنے کا مطالبہ کریں گے چنانچہ مسلمان انہیں مال و دولت اور مشرکین کے نابالغ بچے بطور مال غنیمت کے دیں گے لیکن اس سے آگے بڑھ کر روئی یہ مطالبہ کریں گے کہ تمہیں مسلمانوں کے جو بچے قیدیوں میں ملے ہیں، ہمیں ان میں سے بھی حصہ دو، مسلمان کہیں گے ایسا کبھی نہیں ہو گا کہ ہم مسلمانوں کے بچے تمہارے حوالے کر دیں، اس پر روئی کہیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور قطنطینیہ کے بادشاہ کے پاس جا کر دہائی دیں گے کہ عربوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے جبکہ ہم تعداد اسلحہ اور قوت میں ان سے زیادہ ہیں اس لیے آپ ہماری امداد کریں تاکہ ہم مسلمانوں سے انتقام لے سکیں لیکن قطنطینیہ کا بادشاہ ان کی کسی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دے گا اور ان سے کہے گا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی اور وعدہ خلافی نہیں کر سکتا اور اب وہ ہم پر ہمیشہ غالب ہی رہیں گے۔

یہ لوگ یہاں سے مایوس ہو کر بادشاہ روم کے پاس آئیں گے اور اس کو تمام حالات سے مطلع کریں گے، وہ ان پر ترس کھا کر سمندر کے راستے ۸۰ جنڈے روانہ کرے گا اور اس لشکر کے ہر جنڈے کے ماتحت ۱۲ ہزار سپاہی ہوں گے۔ درمیان راستے میں ان کا سپہ سالار فوج سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ اے میرے سپاہیو! جب تم شام کے ساحل کو پار کر لو تو اپنی سواریوں کو جلا دو تاکہ تمہارے پاس والپیں جانے کا کوئی راستہ نہ رہے اور تم خوب جی داری سے مقابلہ کر سکو چنانچہ وہ اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے

ایسا ہی کریں گے اور مسلمانوں سے اس بہادری کے ساتھ لڑیں گے کہ دمشق اور معنق کے علاوہ پورے شام پر قابض ہو جائیں گے اور وہاں غارت گری کا بازار گرم کر دیں گے نیز مسجد اقصیٰ کو بھی ویران کر دیں گے۔

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس وقت دمشق میں کتنے مسلمان آسکیں گے؟ حضور ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم! جس کے قبضے میں میری جان ہے، جتنے مسلمان اس میں سما نا چاہیں گے، سما جائیں گے بالکل اسی طرح جیسے ماں کا رحم بچے کے لیے کشادہ ہوتا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ! ”معنق“ کیا چیز ہے؟ فرمایا شام کے شہر حص میں ایک پہاڑ ہے جس کے قریب ”اریط“ نامی ایک نہر ہوگی۔

### رومیوں کی شکست:

رومیوں کے حملے کے وقت مسلمانوں کے بچے معنق (پہاڑ) کے اوپر والے حصے پر ہوں گے اور خود مسلمان نہر اریط پر ٹھہرے ہوئے ہوں گے اور صبح سے لے کر شام تک رومیوں سے قتال کیا کریں گے، اور قسطنطینیہ کے گورنر کو جب اس کی خبر لگے گی تو وہ خشکی کے راستے قسرین کی طرف تین لاکھ فوج کے ساتھ روانہ ہو گا، راستے میں میں سے بھی ہزاروں آدمی اس سے آکر مل جائیں گے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے محبت والفت پیدا فرمادیں گے، ان میں سے ۳۰ ہزار تو فقط قبیلہ حمیریہ کے جا بazar ہوں گے۔

قسطنطینیہ کا گورنر ان کے ساتھ بیت المقدس پہنچ گا اور رومیوں سے قتال کر کے ان کو شکست سے دوچار کر دے گا، اس کے بعد وہ شکر مختلف چھوٹی چھوٹی ٹیکڑیوں میں بٹ کر قسرین کے پاس آ کر پڑاؤ کرے گا اور وہاں آ کر ان سے مادہ المولیٰ بھی مل جائیں گے۔

ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ مادہ المولیٰ کون لوگ

ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ تمہارے ہی آزاد کردہ لوگ ہوں گے جو فارس کی جانب سے آئیں گے اور اہل عرب سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ اے جماعت عرب! تم نے عصیت کی راہ اختیار کی، اس وجہ سے تم مغلوب ہو گئے اور جب تک تم تعصب اختیار کیے رہو گے، مغلوب ہی رہو گے اس لیے اب تم سب کو مجتمع ہو جانا چاہیے چنانچہ سب مسلمان جمع ہو کر حملہ کریں گے لیکن ان میں سے ایک تھائی مسلمان شہید ہو جائیں گے، ایک تھائی بھاگ کھڑے ہوں گے اور ایک تھائی باقی بچپن گے۔

جو مسلمان اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے ان میں سے ہر شہید کا درجہ ثواب کے اعتبار سے دس شہداء بدر کے برابر ہو گا اور اللہ کے نزد یک شہداء بدر کی اتنی عزت ہے کہ ان میں سے ایک کی شفاعة ستر شہداء کے برابر ہو گی (اس اعتبار سے اس جنگ میں جو مسلمان شہید ہوں گے، ان کی شفاعة ۲۰۰ شہداء کے برابر ہو گی لیکن یہ بات ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہ آنے پائے کہ اس طرح تو پھر یہ لوگ صحابہ کرام سے افضل ہو گئے؟ اس لیے کہ نبی اکرم ﷺ کی فقط صحبت مبارک ہی ایسی چیز ہے کہ کوئی چیز اس سے بڑھ کر تو کیا اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس جہت سے ان لوگوں کی فضیلت تسلیم کر بھی لی جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہمہ پہلویہ لوگ صحابہ کرام سے افضل ہو گئے۔)

### باقی ماندہ لشکر کے تین حصے:

باقی ماندہ ایک تھائی لشکر پھر تین حصوں میں بٹ جائے گا۔

(۱) ایک تھائی حصہ رومیوں کے ساتھ جا ملے گا اور کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس دین (اسلام) کی کوئی ضرورت ہوتی تو وہ اس کی ضرور مرد کرتا۔

(۲) عرب کے مسلمان جو ایک تھائی ہوں گے، کہیں گے کہ کسی ایسی جگہ جا کر آباد ہو جاؤ جہاں ہم تک رومیوں کی پہنچ نہ ہو سکے مثلاً کسی دور دراز کے دیہات وغیرہ میں یا عراق، یمن اور ججاز کے ایسے علاقوں میں جہاں روئی نہ پہنچ سکیں۔

(۳) ایک تہائی حصہ کے افراد ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے کو یوں فتحیت اور عہدو پیمان کریں گے کہ اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو، اپنی عصیت کو چھوڑ کر مجتمع ہو کر دشمن سے قبال کرو اس لیے کہ قبائلی عصیت کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ہرگز مدد نہیں آ سکتی چنانچہ وہ سب متعدد ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے اس بات پر بیعت کریں گے کہ اب میدان جنگ سے اسی وقت ہمیں گے جب اپنے شہید بھائیوں کے ساتھ جامیں گے۔ (مردتے دم تک لڑتے رہیں گے)

### جبریلؑ و میکائیلؑ کا فرشتوں کی فوج لے کر اتنا:

اُدھر جب روی دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں سے اتنے سارے افراد ہمارے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں اور ان کی معتدبہ مقدار قتل ہو چکی ہے اور اب تھوڑے سے لوگ بچے ہیں تو ایک دن ایک روی دونوں لشکروں کے درمیان کھڑا ہو گا، اس کے پاس ایک جہنڈا ہو گا جس کے اوپر صلیب لگی ہوئی ہو گی اور وہ یہ نعرہ لگائے گا صلیب کی جے، صلیب غالب ہو گئی، مسلمانوں کو یہ کلمہ انتہائی ناگوار گزرے گا اور ایک مسلمان دونوں لشکروں کے درمیان جہنڈا لے کر کھڑے ہو کر کہے گا کہ اللہ کے دوست اور مددگار غالب ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ کو بھی رومیوں کے یہ کہنے پر، کہ صلیب غالب آگئی، غصہ آجائے گا اور اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو مسلمانوں کی مدد کے لیے دو ہزار فرشتوں کے ساتھ نازل فرمائیں گے، اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھی دو ہزار فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی فریاد ری کا حکم ہو گا۔ اس غیری امداد سے مسلمان اس جنگ میں فتح یاب ہو جائیں گے اور کفار و مشرکین شکست کھا کر بھاگ جائیں گے۔

### رومیوں کی دھوکہ دہی:

اس جنگ میں رومیوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمان سر زمین روم پر چڑھائی کر دیں گے اور بلہ بولتے ہوئے عمورا نامی جگہ تک جا پہنچیں گے، عمورا کے شہر پناہ

پر ایک خلقت کی شریعہ جمع ہوگی اور وہ جزیہ ادا کرنے کے اقرار پر مسلمانوں سے امان چاہیں گے، مسلمان ان کو امان دیدیں گے۔

امان کی یہ خبر پھیلنے پر مختلف اطراف سے رومی آآ کر یہاں جمع ہوں گے اور کہیں کہ اہل عرب ا تمہارے پیچھے تمہاری اولاد میں دجال آ گھسا۔ مسلمان یہ سن کر واپس لوٹ آ جائیں گے لیکن خروج دجال کی یہ خبر جھوٹی ہوگی، ادھر رومی یہ افواہ پھیلا کر مسلمانوں کے جانے کے بعد یہ فائدہ اٹھائیں گے کہ تمام وہ اہل عرب جوان کے شہروں میں رہائش پذیر ہوں گے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت یا بچے، سب کو قتل کر دیں گے۔

مسلمانوں کو جب اپنے بھائیوں کے قتل اور رومیوں کی اس غداری کی خبر ملے گی تو وہ غصب ناک ہو کر دوبارہ واپس آ جائیں گے اور رومیوں کے لڑاکا افراد کو قتل کر کے ان کے بچوں کو قیدی بنالیں گے اور مال غنیمت جمع کر لیں گے اور جس شہر یا قلعے کو فتح کرنا چاہیں گے، تین دن کے اندر اندر فتح کر لیں گے۔

### خلیج کا محاصرہ:

روم کے چھوٹے چھوٹے شہروں کو فتح کرنے کے بعد مسلمان خلیج کے کنارے پڑاؤ کریں گے جو کہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان حائل ہو گا، مسلمانوں کی آمد پر اس کے پانی میں طغیانی آ کر اضافہ ہو جائے گا، یہ دیکھ کر قسطنطینیہ کے باشندے کہیں گے کہ صلیب نے ہمارے لیے سمندر کو پھیلا دیا اور مجذوب نے ہماری مدد کی، اس لیے اب مسلمان ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔

لیکن اگلے ہی دن ان کے اس کفریہ قول کے علی الرغم خلیج خشک ہونا شروع ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ مجزہ کے طور پر مسلمانوں کی مدد کے لیے بنی اسرائیل کی طرح اس کو خشک کر دیں گے اور مسلمان اس سے پار ہو کر شب جمعہ کو اس شہر کا محاصرہ کر لیں گے اور ساری رات ایک آدمی بھی نہ سوئے گا اور نہ میٹھے گا بلکہ سارا شکر تکبیر و تہليل اور تحریم و تجدید میں مصروف رہے گا، طلوں فجر کے بعد مسلمان ایک زور دار نعرہ تکبیر بلند کریں گے جس

کی برکت سے شہر کے دونوں برجوں کے درمیان والا حصہ گر جائے گا۔

### خرود جمال:

اب بجائے اس کے کہ رومی سنبھل جائیں اور مسلمانوں کی اس تائید غیبی کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیں، اور زیادہ سرکشی پر آمادہ ہو جائیں گے اور یہ کلمہ کفر بکنا شروع کر دیں گے کہ آؤ! اب تک تو ہم اہل عرب سے لڑتے رہے، اب پہلے اپنے رب سے لڑ کر اس سے نصت لیں جس نے ہمارے شہر کو منہدم اور برباد کر دیا لیکن مسلمان ان پر حملہ کر کے اس جنگ میں قسطنطینیہ کو فتح کر لیں گے اور اسی اثناء میں واقعۃ دجال نکل آئے گا، اس کے کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گا تو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجالی افواج کا مقابلہ کریں گے۔

### جنگ خلیج کی تفصیل ایک دوسری روایت سے:

خلیج کی اس جنگ کی تفصیل ایک دوسری روایت میں اس سے ذرا مختلف ہے اور وہ یہ کہ خلیج پر پہنچنے کے بعد مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ آپس میں یہ عہد کرے گا کہ ہم غالب ہو کر ہی واپس آئیں گے ورنہ وہیں جان دیدیں گے چنانچہ وہ جا کر رومیوں سے قتال کریں گے اور یہاں تک لڑیں گے کہ رات ان دونوں لشکروں کے درمیان حائل ہو کر انہیں جدا کرے گی، مسلمانوں کا وہ دستہ تکمیل شہید ہو جائے گا اور بقیہ ماندہ لشکر بغیر ہار جیت کے نیچلے کے واپس چلا جائے گا، تین دن تک یہی سلسہ جاری رہے گا، چوتھے دن تمام مسلمان مل کر اکٹھا حملہ کریں گے جس میں کافروں کو شکست ہو جائے گی اور اس قدر کافر قتل ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے کافر قتل نہ ہوئے ہوں گے حتیٰ کہ اگر ایک پرندہ ان کی لاشوں پر سے گزر کر ایک سرے سے دوسرے سرے پر پہنچنا چاہے گا تو ان کے تعفن اور بدبوکی وجہ سے یا لمبی مسافت کی وجہ سے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی گر کر مر جائے گا۔

مسلمان شکست خورده رومیوں کا تعاقب کرتے ہوئے خلیج کے کنارے جا پہنچیں گے، وہاں پہنچ کر ان کے قائد حضرت امام مہدی علیہ الرضوان سمندر کے قریب نجرا

کے وضو کے لیے اپنا جھنڈا گاڑ دیں گے لیکن وہ وضو کے لیے آگے بڑھیں گے تو پانی اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا، یہ دیکھ کر امام مہدی مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا تھا، اسی طرح تمہارے لیے بھی راستہ بنادیا ہے اس لیے تم اس کو بے خوف و خطر عبور کر جاؤ۔ چنانچہ مسلمان اس کو عبور کر لیں گے اور سمندر پھر پہلے کی طرح ہو جائے گا۔

اب مسلمان شہر پناہ کے قریب پہنچ کر تین مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کریں گے جس سے ایوانِ کفر کی دیواریں لرزائیں گی اور تیسرا تکبیر پر اس کے بارہ کے بارہ برج گر پڑیں گے اور یوں وہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہو جائے گا، مسلمان وہاں ایک سال تک اقامت گزیں رہیں گے اور اسی دوران وہاں پر مساجد بھی تعمیر کریں گے۔

پھر مسلمان دوسرے شہر میں داخل ہوں گے، وہاں فتح حاصل کرنے کے بعد وہ ابھی ماں غنیمت تقسیم کرہی رہے ہوں گے کہ ایک چینخے والا چینخے گا کہ اے لوگو! شام میں تمہارے پیچھے دجال نکل آیا، مسلمان یہ سن کر واپس آ جائیں گے لیکن واپس پہنچنے پر معلوم ہو گا کہ یہ خبر جھوٹی تھی اس لیے مسلمان ایک ہزار کشتوں پر مقام عکاس سے سوار ہو کر اٹھ پیروں روم واپس چلے جائیں گے۔ (مسلم شریف: ۷۲۲۲)

### بیت المقدس کا خزانہ:

تو ارتخی میں یہ بات مذکور ہے کہ جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کرشی میں حد سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے طاہر بن اسماعیل نامی شخص کو ان پر مسلط فرمادیا چنانچہ اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے خوب قتل و غارت گری کی اور بیت المقدس، جو یہودیوں کا مذہبی عبادت خانہ تھا، کو تھس کر کے اس کے تمام زیورات اور آرائش و تربیثیں کا سامان سمندری راستے سے ۲۰۰۰ کشتوں پر لاد کر اپنے ساتھ روم لے گیا۔

جب حضرت امام مہدی رضوان اللہ علیہ روم کو فتح فرمائیں گے تو اس خزانے کو تلاش کروا کر بیت المقدس بھجوادیں گے، نیز تابوت سکینہ، مائدہ بنی اسرائیل، الواح

تورات کے مکارے، حضرت آدم علیہ السلام کا لباس، حضرت مویٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت سليمان علیہ السلام کا تخت، بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے کھانے "من" کے دو فقیر جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوں گے، کوئی تلاش کروائیں گے۔ اس سلسلے میں امام قطبیؒ نے تذکرہ میں حضرت حذیفہ بن الیمانؓ کی طویل حدیث ذکر کی ہے۔ ملاحظہ ہو:

حضرت حذیفہؓ نے حضور ﷺ سے نقل کیا ہے جس میں آپؐ نے یہ آیت قرآنی "ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الآخرة عذاب عظیم" پڑھنے کے بعد فرمایا کہ پھر مہدیؑ اور ان کے ساتھ جو مسلمان ہوں گے، وہ شہر انطا کیہ میں آئیں گے جو کہ سمندر کے کنارے ایک بڑا شہر ہے اور اس پر تین مرتبہ نزراً بکبیر بلند کریں گے جس کی برکت سے قدرت خداوندی اس کی سمندری شہر پناہ کو گردے گی اور مسلمان، رومیوں کے مردوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیں گے اور ان کے مال و دولت پر بقدر کر لیں گے۔

یوں امام مہدیؑ کا انطا کیہ پر تسلط قائم ہو جائے گا اور وہ اس میں مساجد اور اسلامی طرز تعمیر کی عمارتیں بناؤں گے، اس کے بعد شہر رومیہ، قسطنطینیہ اور کنیتہ الذهب کا رخ کریں گے، چنانچہ قسطنطینیہ اور رومیہ میں داخل ہو کر وہاں کے لوگوں سے قتال کریں گے اور چار لاکھ لڑاکا رومیوں کو تہہ تھی کر دیں گے۔ اس جنگ میں ستر ہزار باکره دو شیزاً میں بطور باندی کے مال غنیمت میں حاصل ہوں گی۔

اسی طرح شہروں اور قلعوں کو فتح کرتے ہوئے، ان کے مال و دولت کو غنیمت بناتے ہوئے، مردوں کو قتل اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بناتے ہوئے جب آپ کنیتہ الذهب میں پہنچیں گے تو وہاں ایسا مال و دولت پائیں گے جس کو انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا اور اس پر بقدر کیا ہو گا اور یہ مال و دولت ہو گا جو بادشاہ روم قیصر نے اس کنیتہ میں اس وقت رکھا تھا جب اس نے اہل بیت المقدس سے جنگ کی تھی اور یہ مال و دولت وہاں پا کرائے اپنے ساتھ ستر ہزار کشتوں پر لاد کر لے آیا تھا اور بیت المقدس میں اس خزانے میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ امام مہدیؑ اس خزانے پر بقدر کر کے اسے واپس

بیت المقدس بھجوادیں گے۔

حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر تو بیت المقدس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہوا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں! بیت المقدس بڑا عظیم گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کے ذریعے سونے، چاندی، موٹی، یاقت اور زمرد سے بنایا تھا اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا اور وہ حضرت سلیمانؑ کے پاس سونے، چاندی کی کانوں میں سے سونا، چاندی اور سمندروں سے جواہرات، یاقت اور زمرد لے کر آتے تھے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

**(وَالشَّيْطَنُ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ) (ص: ۳۷)**

”هم نے حضرت سلیمانؑ کو معمار اور غوط زن جنات پر تسلط دے دیا۔“

ان چیزوں کے ذریعے حضرت سلیمانؑ نے بیت المقدس کی اس طرح تعمیر شروع کی کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اسی طرح کچھ ستون سونے کے اور کچھ چاندی کے تھے اور اس کو موتیوں، یاقت اور زمرد سے مزین کیا۔

حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر بیت المقدس سے یہ چیزیں کیسے عائب ہو گئیں؟ فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور انہیاء علیہم السلام کو شہید کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک جھوی بخت نصر کو مسلط کر دیا اور سات سو سال تک اس کی حکومت قائم رہی۔ ارشاد خداوندی ”فإذا جاء وعد أولاً هما لغة سے یہی مراد ہے۔“

بخت نصر کے سپاہیوں نے بیت المقدس میں داخل ہو کر مردوں کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا اور ان کے اموال اور بیت المقدس میں موجود تمام چیزوں پر بقضہ کر لیا اور اس کو ستر ہزار کشتیوں پر لاد کر باہل آئے اور بنی اسرائیل کو وہاں بسا کر سینکڑوں سال تک ان سے خدمت لیتے اور بخت عذابوں میں بتلا کرتے رہے۔

پھر اللہ تعالیٰ کو ان پر حرم آیا اور انہوں نے ملک فارس کے ایک بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ بیت المقدس جا کر بنی اسرائیل کو آزاد کرائے، چنانچہ وہ بادشاہ، فارس سے روانہ ہو کر بالمل پہنچا اور بقیہ بنی اسرائیل کو بھجو سیوں کے ہاتھ سے آزاد کرایا اور بیت المقدس کے خزانوں کو بھی واپس بھجوادیا نہیں بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو! اگر تم دوبارہ اپنی سابقہ روشن پر واپس آگئے تو تمہارے ساتھ پھر بھی سلوک ہو گا جواب ہوا اور ارشاد باری تعالیٰ: ”عسی ربکم ان یرحمکم.....“ اخْ سے یہی مراد ہے لیکن بنی اسرائیل بیت المقدس واپس آنے کے پچھے عرصے بعد دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اسپر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ روم قیصر کو ان پر مسلط کر دیا، ارشاد خداوندی ”فإذا جاء وعد الآخرة.....“ اخْ سے یہی مراد ہے۔

قیصر روم نے بروجر سے ان پر لشکر کشی کی اور خوب قتل و قفال کیا اور ان کے اموال اور عورتوں کو لے گیا اور بیت المقدس کے تمام خزانوں کو مجمع کر کے ستر ہزار کشتیوں پر لاد کر کنیتہ الذہب میں لا کر رکھ دیا اور وہ اب تک وہیں ہے جب امام مہدی تشریف لا میں گے تو وہ اس کو حاصل کر کے بیت المقدس واپس بھجوادیں گے اور ان کے زمانے میں مسلمان، مشرکین پر غالب آجائیں گے۔ (ذکرہ للقرطی: ص ۷۰۲ تا ۷۰۳)

### نورہ تکبیر سے شہر فتح ہو جائے گا:

قصہ کوتاہ یہ کہ امام مہدی بیت المقدس کے خزانے بھجوانے کے بعد تابوت سکینہ وغیرہ اشیاء کو لے کر ”قاطع“ نامی شہر میں تشریف لا میں گے، جس کی لمبائی ایک ہزار میل، چوڑائی ۵۰۰ میل اور دروازے ہوں گے، امام مہدی اس کا محاصرہ کر لیں گے لیکن وہ شہر بھی سمندر پار ہو گا اور عجیب تر بات یہ ہو گی کہ اس سمندر کو عبور کرنے کے لیے کشتی بھی کام نہ آئے گی، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کشتی کیوں کام نہیں آئے گی؟ فرمایا اس لیے کہ وہ دریا زیادہ گہر انہیں ہو گا البتہ مسلمان اس سمندر کے درمیان چلتے ہوئے اس کو عبور کر لیں گے اور وہاں پہنچ کر چار مرتبہ آواز بلند نورہ تکبیر بلند کریں

گے جس کی شدت تاثیر کی وجہ سے اس کی شہر پناہ کر جائے گی اور مسلمان فاتحانہ انداز سے شہر میں داخل ہو کر مال غنیمت حاصل کر لیں گے اور وہاں سات سال گزار کر بیت المقدس واپس آ جائیں گے، یہاں پہنچ کر انہیں خروج دجال کی خبر معلوم ہو گی۔

### پوری دنیا کی حکمرانی:

ہر وہ شہر جس میں سکندر ذوالقرنین فاتحانہ داخل ہوئے تھے، ان تمام شہروں کو حضرت امام مہدیؑ فتح کر کے وہاں پر امن و امان قائم کر دیں گے اور لوگوں کو ہر قسم کے ظالموں سے پناہ دے دیں گے اور جس وقت دجال کا خروج ہو گا، آپؑ بیت المقدس میں ہوں گے۔

امام مہدیؑ کی اس شاندار فتح اور پوری دنیا پر حکومت کو حضور ﷺ نے یوں بیان فرمایا ہے:

﴿ملک الدنیا مؤمنان و کافران اما المؤمنان فذوالقرنین  
و سلیمان و اما الکافران فنمرود و بخت نصر.

و سیملکھا خامس من عترتی وهو المهدی﴾

”پوری دنیا کے حکمران دو مومن اور دو کافر ہوئے ہیں، مومن تو حضرت سلیمان اور ذوالقرنین تھے، اور کافر نمرود اور بخت نصر تھے۔ اور غنیمہ میری اولاد میں سے ایک آدمی جس کا پوری دنیا میں حکمرانی میں پانچواں نمبر ہو گا، آئیگا (اور پوری دنیا کا مالک ہو جائے گا) اس کا نام مہدی ہو گا“

### جنگ خلیج کے بعد کیا ہو گا؟

جنگ خلیج سے فارغ ہونے کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر یہ افواہ اڑے گی کہ دجال نکل آیا۔ لیکن یہ خبر جھوٹی ہو گی تاہم کچھ عرصے بعد واقعہ دجال نکل آئے گا اور زمین میں خوب قند و فساد پھیلائے گا (جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں) اور مخلوق

خدا کو گراہ کرتا ہوا دشمن پہنچ گا، حضرت امام مہدیؑ بھی وہاں پہنچ چکے ہوں گے، وہ مسلمانوں کو جمع کر کے دجال کے ساتھ مقابلہ کا ارادہ کر لیں گے۔ لیکن اس وقت مسلمان انتہائی ختنی کے عالم میں ہوں گے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ مسلمانوں کا دجال کے ساتھ نکلا راوی بیت المقدس میں ہو گا۔ ملاحظہ ہو:

﴿يَحَاصِرُ الدِّجَالَ الْمُؤْمِنِينَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي صِبَابِهِمْ  
جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّىٰ يَا كَلُوا أَوْتَارَ قَسِيهِمْ مِنَ الْجُوعِ  
فَيَنِمُّا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذَا سَمِعُوا أَصْوَاتَنَافِيِ الْغُلُسِ  
فَيَقُولُونَ أَنَّ هَذَا الصَّوْتُ رَجُلٌ شَبَّاعٌ فَيَنْظَرُونَ فَإِذَا  
بَعِيسَىٰ ابْنُ مَرِيمٍ فَتَقامُ الْأَصْلُوَةُ فَيَرْجُعُ امَامُ الْمُسْلِمِينَ  
الْمَهْدِىٰ فَيَقُولُ عِيسَىٰ تَقْدُمُ فَلَكَ أَقِيمَتُ الْأَصْلُوَةِ  
فِي صَلَىٰ بِهِمْ ذَلِكَ الرَّجُلُ تَلَكَ الْأَصْلُوَةُ قَالَ ثُمَّ  
يَكُونُ عِيسَىٰ امَاماً بَعْدَهُ﴾

(کتاب البرہان: ج ۲ ص ۸۰۵)

”دجال بیت المقدس میں مسلمانوں کا محاصرہ کر لے گا اور مسلمان سخت بھوک کا شکار ہوں گے حتیٰ کہ وہ بھوک کی وجہ سے اپنی کمانوں کی تانیں کھالیں گے اور اسی حال میں ہوں گے کہ طلوع صبح صادق کے بعد کچھ آوازیں سنیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو کسی پیٹ بھرے ہوئے آدمی کی آواز ہے چنانچہ لوگ دیکھیں گے تو اچاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے، اقامت ہو چکی ہو گی، مسلمانوں کے امام مہدیؑ پیچے کو ہیں گے (اور کہیں گے کہ آئے! نماز پڑھائیے) حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم ہی آگے رہ کر (نماز پڑھاؤ) کیونکہ نماز کی اقامت تمہارے ہی لیے ہوئی

ہے چنانچہ وہ نمازوں امام مہدی پڑھائیں گے اور بعد کی نمازوں میں  
حضرت عیسیٰ امامت فرمائیں گے۔“

حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی مدظلہ نے اپنی کتاب ”علامات قیامت اور  
نزول مسیح“ میں علمات قیامت کو ترتیب زمانی کے ساتھ مرتب فرمایا ہے۔ یہاں اس  
موضوع سے متعلق ان کی بیان کردہ ترتیب کو نقل کیا جاتا ہے:

”یہاں تک کہ موئین اردن و بیت المقدس میں جمع ہو جائیں گے  
اور دجال شام میں (فلسطین کے ایک شہر تک) پہنچ جائے گا (جو  
باب لد پر واقع ہوگا) اور مسلمان ”افیق“ نامی گھانی کی طرف سفر  
جائیں گے، یہاں سے وہ اپنے مویشی چڑنے کے لیے بھیجیں گے  
جو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، بالآخر مسلمان (بیت  
القدس کے) ایک پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے جس کا نام ”جلل  
الدخان“ ہے اور دجال (پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال کر)  
مسلمانوں (کی ایک جماعت) کا محاصرہ کر لے گا، یہ محاصرہ سخت  
ہو گا جس کے باعث مسلمان سخت مشقت (اور فقر و فاقہ) میں بتلا  
ہو جائیں گے حتیٰ کہ بعض لوگ اپنی کمان کی تانت جلا کر کھائیں  
گے۔ دجال آخری بار ”اردن“ کے علاقے میں ”افیق“ نامی گھانی  
پر نمودار ہو گا، اس وقت جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو  
گا، وادی اردن میں موجود ہو گا، وہ ایک تہائی مسلمانوں کو قتل کر  
دے گا، ایک تہائی کو نکست دے گا اور صرف ایک تہائی مسلمان  
باقي بچیں گے (جب یہ محاصرہ طول کھینچ گا) تو مسلمانوں کا امیران  
سے کہے گا کہ (اب کس کا انتظار ہے) اس سرکش سے جنگ کرو  
(تاکہ شہادت یافت میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے) چنانچہ  
سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے کہ صحیح ہوتے ہی (نماز فجر کے بعد)

دجال سے جنگ کریں گے۔“

وہ رات سخت تاریک ہو گی اور لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی۔ (کہ تمہارا فریادرس آپنچا) لوگ تعجب سے کہیں گے کہ یہ تو کسی شکم سیر کی آواز ہے۔ غرض (نماز فجر کے وقت) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔

نزول کے وقت وہ اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کانڈھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔“ (علامات قیامت اور نزول سجح ص ۱۵۳ تا ۱۵۵)

اسی کتاب کے ص ۷۷ پر ”مقام نزول، وقت نزول اور امام مہدیؑ“ کا عنوان قائم کر کے تحریر فرماتے ہیں:

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی مشرقی سوت میں سفید مینارے کے پاس (یا بیت المقدس میں امام مہدیؑ کے پاس) ہو گا۔ اس وقت امام (مہدیؑ) نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے اور نماز کی اقامت ہو چکی ہو گی، امام (مہدیؑ) حضرت عیسیٰ کو امامت کے لیے بلا میں گے مگر وہ انکار کریں گے اور فرمائیں گے کہ (یہ امت کا اعزاز ہے کہ) اس کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں۔ جب امام (مہدیؑ) پیچھے ٹھنڈے لگیں گے تو آپ (ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر) فرمائیں گے تم ہی نماز پڑھاؤ، کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہو چکی ہے، چنانچہ اس وقت کی نماز امام مہدیؑ ہی پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ بھی ان کے پیچھے پڑھیں گے اور رکوع سے اٹھ کر ”سمع اللہ لمن حمده“ کے بعد یہ جملہ فرمائیں گے۔ ”قتل اللہ الدجال واظهر المؤمنين۔“

”غرض نماز فجر سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ

کھلوا میں گے جس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ ستر ہزار  
مسلح یہودی ہوں گے، آپ ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے کہ  
میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔۔۔ اخ”

روایات کی اس تفصیلی ترتیب سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت امام مہدیؑ  
کے ظہور کے بعد ان کی کفار و مشرکین اور یہود و نصاری سے خوزیر جنگیں ہوں گی حتیٰ کہ  
جنگ خلیج (جنگ قطنهظیر) سے فارغ ہونے کے بعد دجال کا خروج ہو جائے گا جس کو قتل  
کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، نزول عیسیٰ کے بعد  
حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا کام چونکہ پورا ہو چکا ہوگا اس لیے وہ حکومت و سلطنت  
اور دیگر تمام امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پرد کر کے ان کے تابع ہو جائیں گے اور دو  
سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں رہ کر انقال فرما جائیں گے۔

جبکہ بعض علماء کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول عیسیٰ کے بعد بھی انتظامی  
معاملات حضرت امام مہدیؑ کے پاس ہی رہیں گے اور امام مہدیؑ کی وفات کے بعد  
حضرت عیسیٰ ان کو سنہجات لیں گے اور اس میں بھی کوئی اشکال نہیں کیونکہ اگر امام مہدیؑ  
ہی خلیفہ و منتظم ہوں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشورہ کیے بغیر کوئی قدم نہیں  
اخھائیں گے۔

## ﴿حضرت امام مہدیؑ کی وفات﴾

### ﴿اور ان کی مدت حکومت﴾

حضرت شاہ رفیع الدین صاحب اپنے رسالہ ”علامات قیامت“ میں تحریر  
فرماتے ہیں:

”آپ کی خلافت کی میعاد سات یا آٹھ یا نو سال ہوگی۔ واضح  
ہے کہ سات سال بیسانیوں کے فتنے اور ملک کے انتظام میں،

آنھواں سال دجال کے ساتھ جنگ وجدال میں اور نواں سال حضرت عیسیٰ کی معیت میں گذرے گا اس حساب سے آپ کی عمر ۳۹ سال کی ہوگی۔ بعد ازاں امام مہدی علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھا کر فن فرمائیں گے، اس کے بعد تمام چھوٹے بڑے انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آجائیں گے۔“

حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی تحریر فرماتے ہیں:

”روایات و آثار کے مطابق ان کی عمر چالیس برس کی ہوگی جب ان سے بیعت خلافت ہوگی۔ ان کی خلافت کے ساتویں سال کانا دجال نکلے گا، اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، حضرت مہدی علیہ الرضوان کے دو سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزریں گے اور ۳۹ برس میں ان کا وصال ہوگا۔“ (آپ کے سائل اور ان کا حل: ج اص ۲۶۸)

### ظهور کے وقت امام مہدیؑ کی عمر:

ظهور کے وقت حضرت امام مہدیؑ کی عمر کے سلسلے میں مختلف روایات موجود ہیں لیکن ان میں سے کسی روایت کو ترجیح دینا یا ان مختلف روایات میں تطبیق دینا بہت مشکل ہے البتہ یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ مختلف روایات میں مختلف موقع کی مدت بیان کی گئی ہو۔ چنانچہ نعیم بن حادث نے کتاب الفتن ص ۲۵۸ اور ص ۲۵۹ پر اس قسم کے کئی اقوال نقل کیے ہیں۔

- (۱) کعب فرماتے ہیں کہ امام مہدی کی عمر ۱۵ یا ۵۲ سال ہوگی۔
- (۲) عبد اللہ بن الحارث کہتے ہیں کہ امام مہدیؑ کی عمر خروج کے وقت ۴۰ سال ہو گی۔ (غالباً اسی پرشاہ رفیع الدین نے جزم فرمایا ہے)

(۳) صقر بن رشم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ امام مہدیؑ جب حجاز سے دمشق پہنچ کر اس کی جامع مسجد کے منبر پر رونق افروز ہوں گے تو ۱۸ سال کے ہوں گے۔

(۴) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت کے آخر میں ان کے ظہور کے وقت ۲۰ سے ۳۰ سال کے درمیان عمر کا بیان ہے۔

(۵) ارطاة کے کہتے ہیں کہ امام مہدیؑ کی عمر ۲۰ سال ہوگی۔

(۶) ”القول المختصر“ ص ۷۲ پر امام مہدیؑ کی مدت حکومت سات سال بیان کی گئی ہے جبکہ اسی کتاب کے ص ۵۳ پر تیس یا چالیس سال کی ذکر کی گئی ہے اور ص ۵۸ پر ۳۹ سال، زین پر تھہر نے کی مدت ۳۰ سال، اس سے اگلی طریقہ ان کی زندگی کا تیس سالہ ہونا ذکور ہے۔ نیز ۱۳ اسال کا بھی ذکر موجود ہے۔

ان تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ چونکہ اکثر روایات میں حضرت امام مہدیؑ کی عمر ۲۰ سال ذکور ہے اس لیے اس سے مراد حضرت امام مہدیؑ کی عمر کا وہ حصہ ہے جو بیعت سے پہلے انہوں نے گزارا ہو گا یعنی بیعت کے وقت ان کی عمر ۲۰ سال ہوگی، اس کے بعد سات سال تک وہ مند خلافت پر رونق افروز رہیں گے جیسا کہ علامہ ابن حجر یتیمؒ نے اپنی کتاب القول المختصر کے ص ۷۲ پر اسی کو مشہور قرار دیا ہے اور چونکہ یہ سات سال ان کی مدت حکومت کے ہوں گے جس کے بعد بھی وہ زندہ رہیں گے اس لیے اتنی مدت تو ماننا پڑے گی جس میں وہ حضرت عیینی علیہ السلام کے ساتھ مجال کے لشکر سے مقابلہ کرنے میں شریک ہو سکیں لیکن روایات سے اس کی تعین نہیں ہوتی البتہ شاہ رفیع الدینؒ اور حضرت لدھیانوؒ نے تجھیٹ سات سال مدت حکومت کے بعد دوسال مزید ذکر کیے ہیں۔

جبکہ طبرانی میں حضرت ابوالاممؓ سے ایک مرفوع روایت منقول ہے جس میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں کہ حضور ﷺ نے امام مہدیؑ کی عمر ۲۰ سال ذکر فرمائی اور پھر فرمایا۔

﴿یملک عشر سنین﴾

”وہ دس سال حکومت کریں گے۔“

اس مرفوع روایت کو لینے کے بعد مذکورہ تطبیق پھر ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں تو واضح طور پر ان کی مدت حکومت دس سال ذکر کی گئی ہے۔ واللہ اعلم بحقيقة الكلام۔

**امام مہدیؑ کا انتقال طبی ہوگا:**

البتہ اتنی بات ضرور واضح ہے کہ حضرت امام مہدیؑ اپنی مقررہ مدت عمر پوری کرنے کے بعد اپنی طبی موت سے انتقال فرمائیں گے چنانچہ شیخ علی مقنی نے کتاب البرہان ج ۲ ص ۸۳۶ پر نقل کیا ہے۔

﴿ثم یموت علی فراشہ﴾

”پھر امام مہدیؑ کا اپنے بستر پر انتقال ہو جائے گا۔“

یعنی وہ طبی طور پر وفات پا جائیں گے، امام مہدیؑ کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور ان کو بیت المقدس ہی میں پرداخک کر دیں گے چنانچہ حضرت کاندھلوی تحریر فرماتے ہیں:

﴿وَيَصْلِي عَلَيْهِ رُوحُ اللَّهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَدْفَنُهُ فِي بَيْتِ

المَقْدِسِ كَذَافِي شَرْحِ الْعَقِيلَةِ السَّفَارِينِيَّةِ ص ۸۱ ج ۲﴾

(التعليق الصريح ج ۲ ص ۳۰۳)

”اور ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور ان کو بیت المقدس میں دفن کریں گے۔“

## باب ششم

### احادیث و آثار متعلقہ بالامام المہدیؑ

ظہور مہدیؑ سے متعلق صحیحین کی آثار روایات

نیز ۳۷ صحابہ و صحابیات علیہم الرضوان کی

ظہور مہدیؑ سے متعلق مردویات

## ﴿احادیث و آثار متعلقہ بالامام المهدیؑ﴾

اس سے قبل ظہور مهدیؑ کے متعلق عقیدے کی تفصیلی بحث میں آپ ان صحابہؓ و صحابیاتؓ کے اسماء گرامی مع حوالہ جات پڑھ چکے ہیں جن سے امام مهدیؑ کے متعلق روایات مردی ہیں۔ یہاں ان کی روایات ذکر کی جاتی ہیں اور اس سے قبل وہ روایات بھی ذکر کرنا لائق ہے جو امام مهدیؑ سے متعلق صحیحین (بخاری و مسلم) میں موجود ہیں، اس سے بعض لوگوں کے اس اعتراض کا بھی جواب جائے گا کہ روایات مهدیؑ صحیحین میں نہیں۔

## ﴿صحیحین کی وہ روایات جو امام مهدیؑ سے متعلق ہیں﴾

(۱) صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔

﴿قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ أَبْنَى مُرِيْحَ فِيْكُمْ وَأَمَّا مِنْكُمْ مَنْ كَفَرَ﴾ (فاری ۳۷۳۹، مسلم حدیث نمبر ۳۹۲)

”حضور ﷺ نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہو گا جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں کا ہو گا“

اس حدیث کی شرح میں ملاعی قاری ”وَأَمَّا مِنْكُمْ مَنْ كَفَرَ“ کے مصدق پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

﴿مِنْكُمْ أَيُّهُمْ أَهْلُ دِينِكُمْ وَقَيلَ مِنْ قَرِيبِكُمْ وَهُوَ الْمَهْدِيُّ وَالْحَالِصُلُّ إِنَّ أَمَّا مِنْكُمْ مَنْ كَفَرَ مِنْكُمْ دُونَ عِيسَى فَإِنَّهُ بِمُنْزَلَةِ الْخَلِيفَةِ وَقَيلَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إِنَّ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَكُونُ مِنْ أَمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِلِ مَقْرُورًا لِّلْمُلْتَهِيِّ مَعِينًا لِّالْأَمْتَهِيِّ إِنَّمَا السَّلَامُ وَفِي شَرْحِ السَّنَةِ قَالَ مَعْمُرٌ وَأَنْتُمْ وَأَمَّا مِنْكُمْ مَنْ كَفَرَ وَقَالَ أَبْنَى ذَئْبٌ عَنْ

ابن شہاب فاماکم منکم قال ابن ابی ذئب فی معناه  
 فاماکم بكتاب ربکم وسنة نبیکم قال الطیبی رحمه اللہ  
 فالضمیر فی "اماکم" لعیسیٰ "ومنکم" حال ای یؤمکم  
 عیسیٰ حال کونہ من دینکم ویحتمل ان یکون معنی  
 "اماکم منکم" کیف حالکم وانتم مکرمون عنداللہ  
 تعالیٰ والحال ان عیسیٰ ینزل فیکم واماکم منکم  
 وعیسیٰ یقتدى باماکم تکرمة لدینکم\*)

(مرقاۃ المفاتیح: ج ۱۰ ص ۲۲۲)

"تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا" کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا امام  
 تمہارے ہی اہل دین میں سے ہوگا (کسی اور شریعت یا کتاب پر  
 عامل نہیں ہوگا) اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قریش ہیں  
 (تمہارا امام قریش میں سے ہوگا) اور اس امام کا نام مہدیؑ ہوگا۔  
 خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمہارا امام تم ہی میں کا ایک فرد ہوگا  
 نہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے امام ہوں گے کیونکہ وہ  
 بمنزلہ خلیفہ کے ہوں گے چنانچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث  
 میں اس بات کی دلیل بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ امت محمدیہ میں  
 سے نہیں ہوں گے بلکہ ملت محمدیہ کی تقویت اور امت محمدیہ کی  
 اعانت کے لیے تشریف لائیں گے۔

شرح السنہ میں ہے کہ معمنے اس حدیث کا یہ مطلب  
 بیان کیا ہے کہ تم تو (مقتدی) ہو گے ہی، تمہارا امام بھی تم ہی میں  
 سے ہوگا۔ اور ابن ابی ذئب نے ابن شہاب سے "فاماکم  
 منکم" کا یہ معنی نقل کیا ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی  
 روشنی میں تمہاری اامت کریں گے۔

علامہ چینی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں "امکم" کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹے گی اور "منکم" ترکیب میں حال واقع ہو گا اور مطلب یہ ہو گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کے مطابق تمہاری امامت کریں گے (انجیل پر نہ خود عمل کریں گے اور نہ دوسروں کو عمل کرائیں گے)۔

اور یہ بھی احتمال ہے کہ "اما مکم منکم" کا معنی یہ ہو کہ تم ایک معزز قوم ہو اور تمہاری عزت کا اس وقت کیا حال ہو گا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہو گا نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے دینی اعزاز و اکرام کی بناء پر تمہارے امام کی اقتداء کریں گے۔"

حضرت مولانا سید بدر عالم مجاہر مدینی "اس حدیث کے تحت قطر از ہیں:  
"حدیث مذکور میں "اما مکم منکم" کی شرح بعض علماء نے یہ بیان کی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو وہ شریعت محمدیہ ہی پر عمل فرمائیں گے اس لحاظ سے گویا وہ ہم ہی میں سے ہوں گے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں امام سے مراد امام مهدی ہیں اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے زمانے میں نازل ہوں گے جب کہ ہمارا امام خود ہم ہی میں ایک شخص ہو گا۔ ان دونوں صورتوں میں امامت سے مراد امامت کبریٰ یعنی امیر و خلیفہ ہے۔"

اس مضمون کے ساتھ صحیح مسلم میں "فیقول امیر هم تعال صل لنا" کا دوسرا مضمون بھی آیا ہے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو نماز کا وقت ہو گا اور امام مصلیٰ پر جا پڑ کا ہو گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نو دیکھ کر وہ امام پیچھے بننے کا ارادہ کرے

گا اور عرض کرے گا کہ آپ آگے تشریف لا میں اور نماز پڑھائیں  
مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی کو امامت کا حکم فرمائیں گے اور یہ  
نماز خود اسی کے پیچھے ادا فرمائیں گے، یہاں امامت سے مراد  
امامت صغری یعنی نماز کا امام مراد ہے۔

اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں مضمون بالکل عیحدہ عیحدہ ہیں  
اور انحضرت ﷺ سے اسی طرح عیحدہ عیحدہ منقول ہوئے  
ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں لفظ ”وامامکم  
منکم“ سے پہلا مضمون مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ  
السلام کے نزول کے زمانے میں مسلمان کا امیر ایک نیک شخص ہو گا  
جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث میں اس کی وضاحت آچکی ہے ملاحظہ  
فرمائیے۔ ترجمان النبی ۳/۱۵۸۶۔ اس میں ”وامامکم منکم“  
کی بجائے ”وامامکم رجل صالح“ صاف موجود ہے یعنی  
تمہارا امام ایک مرد صالح ہو گا۔ ..... لہذا جب صحیح مسلم کی  
ذکورہ بالا حدیث میں یہ معین ہو گیا کہ امام سے امیر و خلیفہ مراد ہے  
تو اب بحث طلب بات صرف پیدا ہوتی ہے کہ یہ امام اور رجل صالح  
کیا وہی امام مہدی رضی اللہ عنہ ہیں یا کوئی دوسرا شخص۔ ظاہر ہے کہ  
اگر دوسری روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس امام اور رجل صالح  
سے مراد امام مہدی ہی ہیں تو پھر امام مہدی کی آمد کا ثبوت خود  
یہیں میں مانتا پڑے گا۔ اس کے بعد اب آپ وہ روایات ملاحظہ  
فرمائیں جن میں یہ ذکور ہے کہ یہاں امام سے مراد امام مہدی ہی  
ہیں۔

یہ واضح رہنا چاہئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول  
کے زمانے میں کسی امام عادل کا موجود ہونا جب صحیح ہے ثابت

ہے اور اس دعویٰ کے لئے کوئی ضعیف حدیث بھی موجود نہیں کہ وہ ”امام مہدی“ نہ ہوں گے بلکہ کوئی اور امام ہو گا تو اب اس امام کے امام مہدی ہونے کے انکار کے لئے کوئی معقول وجہ نہیں ہے بالخصوص جب کہ دوسری روایات میں اس کے امام مہدی ہونے کی تصریح موجود ہے۔ اسی کے ساتھ جب صحیح مسلم کی حدیثوں میں اس امام کی صفات وہی ہیں جو حضرت امام مہدی کی صفات ہیں تو پھر ان حدیثوں کو بھی امام مہدی کی آمد کا ثبوت تسلیم کر لیتا چاہیئے۔ اس کے علاوہ حدیثوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے جو اگرچہ بمعاظ اسناد ضعیف ہیں لیکن صحیح و حسن حدیثوں کے ساتھ ملا کروہ بھی امام مہدی کی آمد کی جدت کہا جا سکتا ہے۔

(ترجمان السنہ ج ۹۲ ص ۵۸)

۲- صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے  
 ﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرَالِ طائِفَةً مِّنْ أَمْتَى يَقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ فَلَهُمْ يَوْمٌ إِذَا قَالَ فَلَمْ يَنْزَلْ عَيْسَى بْنُ مَرْيَمٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنْ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ بَعْضٌ امْرَأَتُكَرْمَةُ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةُ﴾ (رواہ مسلم۔ ۳۹۰۔ مکملہ المصالح ص ۲۸۰)

”حضرت مسیح ایضاً نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک مسلسل حق پر قتال کرتی رہے گی (اور) غالب رہے گی، فرمایا کہ پھر عیسیٰ این مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کا امیر کہے گا کہ آئیے! اور ہمیں نماز پڑھائیے۔ وہ کہیں گئے نہیں! بلکہ تم میں سے بعض لوگ بعض پر امیر ہیں اس امت کی عند اللہ عزت و شرافت کی وجہ سے۔“

اس روایت میں اگرچہ امام مہدیؐ کے نام کی تصریح نہیں تاہم دیگر قوی شواہد و  
قرآن کی رشی میں اس حدیث کا مصدق امام مہدی رضوان اللہ عنہ ہی قرار پاتے ہیں۔  
۳۔ نیز صحیح مسلم ہی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت منقول ہے کہ حضور  
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

**﴿يَكُونُ فِي أَخْرَى أُمَّتٍ خَلِيفَةٌ يَحْشِي الْمَالَ حَتَّى لَا يَعْدُهُ  
عَدًّا قَالَ قَلْتُ لَا بَنِي نَضْرَةٍ وَ لَا بَنِي الْعَلَاءِ اتَّرِيَانَ إِنَّهُ عُمَرَ بْنَ  
عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ فَقَالَ لَا﴾** (رواه مسلم. ۴۱۵)

”میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہو گا جو لوگوں کو بغیر شمار کئے  
لپ بھر بھر کر مال دے گا۔ (حدیث کے ایک راوی جریری کہتے  
ہیں) کہ میں نے ابو نظرہ اور ابو العلاء سے پوچھا کہ کیا آپ کی  
رائے میں وہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہیں تو ان دونوں نے نفی میں  
جواب دیا۔“

اس قسم کی احادیث مسلم شریف میں ۳۱۵۷-۳۱۹۶ ملاحظہ فرمائیں۔

احادیث مذکورہ میں اگرچہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے نام کی صراحت نہیں ہے  
لیکن محدثین کرام ان احادیث کا مصدق امام مہدی رضی اللہ عنہ ہی کو قرار دیتے ہیں نیز  
حارث بن ابی اسامہ کی مسند میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مذکورہ روایت میں امام مہدی  
رضی اللہ عنہ کے نام کی صراحت موجود ہے۔ اسی طرح نواب صدیق حسن خان نے اپنی  
کتاب ”الاذاعہ“ کے آخر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی مسلم کی اس روایت  
پر امام مہدی رضی اللہ عنہ سے متعلق احادیث کو ختم کر کے تحریر فرمایا ہے۔

**﴿وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ الْمَهْدَىٰ وَلَكِنْ لَا مَحْمَلَ لَهُ وَلَا مَثَالٌ  
لَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ إِلَّا الْمَهْدَىٰ الْمُنْتَظَرُ كَمَا دَلَّتْ عَلَى  
ذَلِكَ الْأَخْبَارُ الْمُتَقْدَمَةُ وَالْآثَارُ الْكَثِيرَةُ﴾**

”اس حدیث میں اگرچہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں لیکن احادیث میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کے علاوہ اس کا کوئی محل اور مثال موجود نہیں جیسا کہ اس پر گذشتہ احادیث اور بکثرت وارد شده آثار دلالت کرتے ہیں۔“

۳۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے جو کہ حکماً معروف ہے اس لئے کہ اپنی طرف سے ایسی بات کوئی صحابی نہیں کہہ سکتا تو قتیلکہ اس نے حضور ﷺ سے اس کو سنانہ ہو۔ علامہ سیوطیؒ نے الحاوی للغتاوی جلد دوم میں اس پر کافی شافی بحث فرمائی ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْعُودٍ قَالَ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقْرُمُ حَتَّىٰ  
لَا يَقْسُمَ مِيرَاثَ وَلَا يَفْرَحَ بِغَيْمَةٍ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكُذا وَ  
نَحَاهَا حَوْلَ الشَّامِ فَقَالَ عَدُوُّ يَجْمَعُونَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ  
وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ قَلْتُ الرُّومُ تَعْنِي قَالَ نَعَمْ قَالَ  
وَيَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقَتَالِ رَدَّةٌ شَدِيدَةٌ فَيَشْرُطُ  
الْمُسْلِمُونَ شَرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ الْأَغَالِبَةَ فَيَقْتَلُونَ  
حَتَّىٰ يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ الْلَّيلَ فِيهِ هُؤُلَاءِ وَهُؤُلَاءِ كُلُّ غَيْرِ  
غَالِبٍ وَتَفْنِي الشَّرْطَةَ ثُمَّ يَشْرُطُ الْمُسْلِمُونَ شَرْطَةً  
لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ الْأَغَالِبَةَ فَيَقْتَلُونَ حَتَّىٰ يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ  
الْلَّيلَ فِيهِ هُؤُلَاءِ وَهُؤُلَاءِ كُلُّ غَيْرِ غَالِبٍ وَتَفْنِي  
الشَّرْطَةَ ثُمَّ يَشْرُطُ الْمُسْلِمُونَ شَرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ  
الْأَغَالِبَةَ فَيَقْتَلُونَ حَتَّىٰ يَمْسَا فِيهِ هُؤُلَاءِ وَهُؤُلَاءِ كُلُّ  
غَيْرِ غَالِبٍ وَتَفْنِي الشَّرْطَةَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ  
نَهَدَ إِلَيْهِمْ بِقِيَةَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِمْ  
فَيَقْتَلُونَ مَقْتَلَةً إِمَامًا قَالَ لَا يَرِي مُتْلِهَا وَإِمَامًا لَمْ يَرِمُّلَهَا

حتى ان الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى  
يخر ميتا فيتعاد بنو الاب كانوا مائة فلا يجدونه بقى  
منهم الا الرجل الواحد فبى غنية يفرح او اى ميراث  
يقاسم فيناتهم كذلك اذ سمعوا ببام هو اكبر من  
ذلك ف جاءهم الصريح ان الدجال قد خلفهم فى  
ذراريهم فيرفضون ما فى ايديهم ويقبلون فيبعثون  
عشر فوارس طليعة قال رسول الله ﷺ انى لا عرف  
اسماؤهم واسماء آبائهم والوان خيولهم هم خير  
فوارس او من خير فوارس على ظهر الارض يومئذ )

(رواہ مسلم، ۲۸۱، مشکوہ المصایب ص ۳۶۷)

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ (ایسا وقت نہ آجائے کہ) میراث تقسیم نہیں ہوگی اور مال غیرمت سے خوشی نہیں ہوگی (کیونکہ جب کوئی وارث ہی نہیں رہے گا تو ترک کون بانٹے گا اور جب کوئی لڑائی سے زندہ ہی نہیں بچے گا تو مال غیرمت کی کیا خوشی ہوگی؟) پھر اپنے ہاتھ سے شام کی طرف سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اہل اسلام سے لڑنے کے لئے دشمن جمع ہوں گے۔ مسلمان بھی ان سے لڑنے کے لئے اکٹھے ہوں گے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا دشمنوں سے مراد روئی ہیں؟ فرمایا ہاں! اور اس موقع پر شدید لڑائی ہوگی چنانچہ مسلمان ایک جماعت کو لڑنے کے لئے بھیجن گے جو یہ شرط سلسلہ میں ہو گے کہ یا تو مر جائیں گے یا پھر غالب ہو کر واپس آئیں گے، چنانچہ وہ جا کر اتنا لڑائیں گے کہ رات ان کے درمیان حاصل ہو جائے گی اور دونوں فوجیں ہارجیت کے نیصے کے بغیر واپس

آجائیں گی اور سنے کی نیت سے جانے والا اسلامی دستہ مکمل شہید  
ہو جائے گا اور تین دن تک اسی طرح ہوتا رہے گا۔

چوتھے دن بقیہ تمام مسلمان حملہ کے ارادہ سے بڑھیں  
گے، اللہ تعالیٰ اس دن کافروں کو شکست دے دیں گے اور ایسی  
زبردست جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے نہ دیکھی گئی ہوگی (اور لاشوں  
کا اس قدر انبار لگ جائے گا کہ) ایک پرندہ ان پر سے اڑ کر  
گزرننا چاہے گا لیکن (شدت تفون یا طول مسافت کی وجہ سے) اس  
میدان کو عبور کرنے سے پہلے گر کر مر جائے گا، اس کے بعد جب  
مردم شماری کی جائے گی تو اگر مثلاً کسی آدمی کے سوابیتے تھے ان میں<sup>شنبہ</sup>  
سے صرف ایک زندہ بچا ہوگا اور باقی سب شہید ہو چکے ہوں گے تو  
ایسی حالت میں کون سے مال نیمت سے خوشی ہوگی یا کون سی  
وراثت تقسیم ہوگی۔ ابھی مسلمان اسی حالت میں ہوں گے کہ اس  
سے بڑی آفت کی خبر سنیں گے چنانچہ ایک شخص چیخ کر کہے گا کہ  
دجال ان کے پیچے ان کے پجھوں میں آگھا ہے۔ مسلمان یہ خبر  
سنتے ہی اپنے پاس موجود تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف  
روانہ ہو جائیں گے اور (تحقیق حال کے لئے) مقدمۃ الجیش کے  
طور پر دس سواروں کا ایک دستہ بھیجنیں گے جن کے بارے میں حضور  
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سواروں اور ان کے باؤں کے نام اور  
ان کے گھوڑوں کے ناموں تک کو جانتا ہوں اور وہ اس وقت روئے  
ز میں کے بہترین شہسواروں میں سے ہوں گے۔

(فائدہ): اس حدیث میں اگرچہ بظاہر امام مہدی رضی اللہ عنہ کا مذکور نہیں لیکن محدثین  
کرام نے اس کو انہی کے زمانے پر محمول کیا ہے کیونکہ یہ واقعہ انہی کے زمانے میں پیش  
آئے گا جیسا کہ آپ گذشتہ اوراق میں بالتفصیل پڑھ آئے ہیں۔ لہذا اس روایت سے بھی

ظہور مہدی کا ثبوت ملتا ہے۔

۵۔ اس طرح بخاری شریف میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔

عن عوف بن مالک قال اتیت النبی ﷺ فی غزوۃ

تبوک و هو فی قبة من ادم فقال اعدد ستابین يدی  
الساعة موته ثم فتح بيت المقدس ثم مُوتَانٌ ياخذ فيكم  
كفعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة  
دينار فيظل ساخطًا ثم فتنه لا يبقى بيت من العرب الا  
دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفر فيغدرون  
فيأتونكم تحت ثمانين غایة تحت كل غایة اثنا

عشر الفاً (رواہ البخاری، مشکوہ ص ۳۶۶)

اس سے ملتی جلتی حدیث ابن ماجہ میں بھی ۳۰۳۲ پر موجود ہے۔

”حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے پاس غزوۃ تبوک میں آیا جب کہ آپ ﷺ چجزے کے ایک خیے میں تھے۔ (مجھے دیکھ کر) فرمایا کہ قیامت سے پہلے چھ چیزوں کو شمارلو۔ ۱۔ میرا اس دنیا سے انقال۔ ۲۔ بیت المقدس کی فتح۔ ۳۔ عام موت جس طرح بکریوں میں وباً مرض آجائے (اور وہ بکثرت مرنے لگیں)۔ ۴۔ مال کی اتنی بہتات کہ ایک آدمی کو سو دینار دینے جائیں گے تو وہ اس پر بھی ناراض ہوگا۔ ۵۔ پھر ایسا فتنہ پھیلے گا کہ عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ ۶۔ پھر تمہارے اور رو میوں کے درمیان صلح ہوگی، وہ دھوکہ بازی سے کام لے کر تمہارے پاس (اس کثرت سے فوجیں لے کر) آئیں گے کہ وہ اسی جہندوں کے نیچے ہوں گے اور ہر جہندے کے نیچے پارہ بڑا رپا ہوں گے۔“

فائدہ: اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مولانا سید بدر عالم مہاجر مدینی "تحریر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں قیامت سے قبل چھ علامات کا ذکر کیا گیا ہے، جن کی تعین میں اگرچہ بہت کچھ اختلافات ہیں اور ان کے ابہام کی وجہ سے ہونے چاہئیں لیکن یہ کہنا بے جانہ ہوگا کہ حدیث مذکورہ کے بعض الفاظ حضرت امام مہدیؑ کے خروج کی علامات سے اتنے ملتے جلتے ہیں کہ اگر ان کو ادھر ہی اشارہ قرار دے دیا جائے تو ایک قریبی احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے اس حدیث کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بحث میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ لحاظ کے بغیر کم محقق ابن خلدون اور ان کے اذناب اس کے معتقد ہیں یا نہیں۔

تبیہ: یہ بات قابلِ تنبیہ ہے کہ علماء کے نزدیک مفہوم عدد معتبر نہیں ہے اس لئے مجھ کو اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قیامت سے قبل اس کے ظہور کی چھ علامات ہیں یا کم و بیش۔ یہ وقت اور علامات کی حیثیت شمار کرنے سے مختلف ہو سکتی ہیں ان کا کسی حیثیت سے چھ ہونا بھی ممکن ہے اور کسی لحاظ سے وہ کم اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں ممکن ہے کہ وقت لحاظ سے جن علامات کو آپ نے یہاں شمار کرایا ہے ان کا عدد کسی خصوصیت پر مشتمل ہو۔ یہ بات صرف یہاں نہیں بلکہ دیگر حدیثوں کے موضوع میں بھی اگر آپ کے پیش نظر رہے تو بہت سی مشکلات کے لئے موجب حل ہو سکتا ہے جیسا کہ فضل اعمال کی حدیثوں میں اختلاف ملتا ہے اور اس کو بہت پیچیدی گیوں میں ڈال دیا گیا ہے حالانکہ یہ اختلاف بھی صرف وقت اور شخصی اختلاف کے لحاظ سے پیدا ہو جانا بہت قرین قیاس ہے۔ مگر کیا کہا جائے منطقی عادات نے ہماری ذہنی ساخت کو بدل دیا ہے۔

ع چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زند (ترجمان السنن ج ۲ ص ۳۹۷)

نیز اس سے قبل آپ یہ بھی پڑھ آئے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے زمانے میں ہی یہ واقعہ پیش آئے گا لہذا یہ روایت بھی ظہور مہدیؑ کا اثبات کر رہی ہے۔

۶۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ سے مسلم شریف میں یہ روایت مردی ہے۔

﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ لَا تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّىٰ يَنْزَلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقِ فِي خُرُوجِ الْيَهُودِ جَيْشًا مِّنْ

المدينة من خيار اهل الارض يومئذ فاذا تصافوا قالوا  
 الروم خلوا بیننا و بین الذين سبوا من اقاتهم فيقول  
 المسلمين لا والله لا نخلی بینکم و بین اخواننا  
 فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا و يقتل  
 ثلثهم افضل الشهداء عند الله و يفتح الثالث لا يفتون  
 ابدا فيفتحون قسطنطينة فيبینماهم يقتسمون الغنائم قد  
 علقوا سيفهم بالزيتون اذ صاح فيهم الشيطان ان  
 المسيح قد خلفكم في اهليكم فيخرجون و ذلك  
 باطل فاذا جاءوا الشام خرج فيبیناهم يعدون للقتال  
 يسرون الصوف اذ اقيمت الصلوة فينزل عيسى ابن  
 مريم فامهم فاذا رأاه عدو الله ذاب كما يذوب الماء  
 في الملح فلو تركه لانذاب حتى يهلك و لكن يقتله  
 الله بيده فيريح دمه في حربته )

(روہ مسلم ۷۲۸، مکلوہ ص ۳۶۶)

”حضور ﷺ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روی اعماق یا داہل نامی جگہ پر پڑاؤ نہ کر لیں چنانچہ ان سے لڑنے کے لئے زمین والوں کے بہترین افراد پر مشتمل ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا، (وہاں پہنچ کر) جب دونوں لشکر صف بندی کر لیں گے تو روی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جن کو ہم میں سے قیدی بنالیا گیا ہے تاکہ ہم انہی سے لڑ لیں (کیونکہ انہوں نے مسلمان ہو کر ہمارے ساتھ غداری کی ہے)۔ مسلمان کہیں گے کہ اللہ کی قسم! ایسا نہیں ہو سکتا چنانچہ وہ ان سے لڑیں گے حتیٰ کہ ایک تہائی مسلمان شکست کھا

کر بھاگ کھڑے ہوں گے، ان کی توبہ اللہ بھی قبول نہیں فرمائے گا، ایک تہائی مسلمان شہید ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے اور ایک تہائی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی اور یہ آئندہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہوں گے۔

مسلمان قحطانیہ کو فتح کر کے اپنی تواروں کو زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی مال غیمت تقسیم کر ہی رہے ہوں گے کہ اچانک شیطان ان میں آ کر چیخ گا کہ تمہارے پیچھے دجال تمہارے گھروالوں میں آ گھسا (یہ خبر سنتے ہی) مسلمان روانہ ہو جائیں گے لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی تاہم مسلمان جب شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔

مسلمان اس سے لڑائی کی تیاری کر کے صفوں کو برابر کر رہے ہوں گے کہ نماز کھڑی ہو جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور (آئندہ نمازوں میں) مسلمانوں کی امامت کریں گے۔ جب اللہ کا دشمن دجال ان کو دیکھے گا تو ایسے پکھنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں پکھتا ہے چنانچہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کریں تب بھی وہ گھل کر ختم ہو جائے گا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے مسلمانوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر لگا ہوا دکھائیں گے۔“

**فائدہ:**

اس حدیث میں دو باتیں غور طلب ہیں:

- (۱) ”جیش من المدینۃ“ میں مدینہ سے کون سا شہر مراد ہے؟
- (۲) ”فائم“ سے کیا مراد ہے؟

پہلی بات کی وضاحت کرتے ہوئے ماعلیٰ قاریٰ تحریر فرماتے ہیں:

﴿جیش من المدينة قال ابن الملك قيل المراد  
بها حلب، والا عماق و دابق موضعان بقربه و قيل المراد  
بها دمشق وقال في الازهار واما ماقيل من ان المراد بها  
مدينة النبي ﷺ فضعيف لأن المراد بالجيش الخارج  
إلى الروم جيش المهدى بدليل آخر الحديث ولأن  
المدينة المنورة تكون خراباً في ذلك الوقت﴾

(مرقاۃ الفاتح: ج ۱۰ ص ۱۳۶)

”مدينة“ سے کیا مراد ہے؟ ابن ملک کہتے ہیں کہ اس میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے شہر حلب مراد ہے اور اعماق و دابق اس کے قریب دو جگہیں ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے دمشق مراد ہے اور کتاب الازهار میں ہے کہ اس سے مدینہ منورہ مراد لینے کا قول ضعیف ہے اس لیے کہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رومیوں کی طرف جانے والا شکر امام مهدیؑ کا ہوگا (اور امام مهدیؑ اس وقت مدینہ منورہ میں نہیں ہوں گے) کیونکہ اس زمانے میں مدینہ منورہ ویران ہوگا۔

جبکہ دوسری بات کی وضاحت کرتے ہوئے ماعلیٰ قاریٰ رقمطراز ہیں:

﴿فامهم وفى روایة قدم المهدى معللاً بان الصلة انما  
اقیمت لک و اشعاراً بالمتابعة و انه غير متبع استقلالاً  
بل هو مقرر و مؤيد ثم بعد ذلك يؤم بهم على الدوام  
وقوله فامهم فيه تغليب او ترك مجاز اي امرا مامهم  
بالاما ماما ويكون الدجال حينئذ محاصرًا

للمسلمين﴾ (مرقاۃ الفاتح: ج ۱۰ ص ۱۳۸)

”اس روایت میں حضرت عیسیٰ کی امامت کا تذکرہ ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہوئے امام مہدیؑ کو نماز کے لیے آگے بڑھائیں گے کہ اقامت تہارے لیے ہوئی ہے اور اپنی متابعت کا احساس دلائیں گے نیز یہ کہ امام مہدیؑ مستقل طور پر متبع (امام) نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ ان کی تائید و تقویت فرماتے ہیں پھر اس کے بعد مستقل طور پر حضرت عیسیٰ ہی نمازیں بڑھائیں گے لہذا حدیث کے اس لفظ ”فَإِمْمَٰٰهُ“ میں تعلیماً یا ترکیب مجازی کے طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ امامت کریں گے یعنی امامت کا حکم دیں گے اور اس وقت دجال مسلمانوں کا محاصرہ کیے ہوئے ہو گا۔“

(۷) اسی طرح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے:

﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْفَرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَ فَلَا يَأْخُذُهُ خَذْمَهُ شَيْئًا﴾

(تفقیہ، بخاری ۱۱۹، مسلم ۲۷۳، مکملة المصانع: ص ۳۶۹)

”حضور ﷺ نے فرمایا کہ عنقریب دریائے فرات کا پانی خشک ہو کر اس سے سونے کا ایک خزانہ ظاہر ہو گا، تم میں سے جو اس موقع پر حاضر ہو، وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔“

فائدہ:

اس کی تفصیل باب پنجم میں گزر چکی ہے اور یہی روایت مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے کچھ اضافے کے ساتھ بھی مروی ہے۔

﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفَرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِّنْ ذَهَبٍ يُقْتَلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مَنْ

کل مائے تسعہ و سبعون ويقول کل رجل منهم لعلی

اکون انا الذی انجوه (رواہ مسلم ۲۲۲، مکلوۃ ص ۳۶۹)

”حضور ﷺ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی تاوقتیکہ دریائے فرات کا پانی خشک ہو کر اس میں سے سونے کا پھاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ اس کے حصول کے لیے لوگ آپس میں اس قدر لڑیں گے کہ ہر سو میں سے ننانوے افراد مارے جائیں گے اور اس جنگ میں ہر آدمی بھی سمجھے گا کہ شاید میں نجح جاؤں۔“

(۸) اسی طرح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ مرفوع روایت بھی منقول ہے:

عن ابی هریرة ان النبی ﷺ قال سمعتم بمدينة جانب منها فی البر و جانب منها فی البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعۃ حتی یغزوها سبعون القامن بنی اسحق فاذا جاؤ هاہنزاوا فلم یقاتلوا بسلح ولم یرموا بسهم قالوا لا الا الله والله اکبر فیسقط احد جانبيها قال لا اعلمہ الا قال الذی فی البحر ثم یقولون الثانية لا الا الله والله اکبر فیسقط جانبها الاخ رثم یقولون الثالثة لا الا الله والله اکبر فیفرج لهم فیدخلونها فیغمون فیینما ہم یقتسمون المفانیم اذا جاء ہم الصریخ فقال ان الدجال قد خرج ویترکون

کل شی و یرجعون (رواہ مسلم ۳۳۳، مکلوۃ الصانع ص ۷۷)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) حضور ﷺ نے صحابہ کرامؓ سے پوچھا کہ کیا تم نے کسی ایسے شہر کے متعلق سنا ہے جس کے ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہو؟ صحابہ

نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! فرمایا کہ قیامت اس وقت تک  
قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنی اسحاق کے ستر ہزار افراد اس شہر کے  
لوگوں سے جہاد نہ کر لیں چنانچہ مجاہدین جب وہاں پڑاؤ کریں گے  
تو نہ الحجہ سے لڑیں گے اور نہ تیر پھینکنے کی نوبت آئے گی، صرف  
ایک مرتبہ ”لا الہ الا اللہ والله اکبر“ کہنے سے شہر پناہ کا ایک  
 حصہ گر جائے گا۔“

ثور بن یزید کہتے ہیں کہ میں تو یہی جانتا ہوں کہ میرے شیخ نے یہ کہا  
تھا کہ اس سے مراد سمندر کی جانب والی دیوار ہے۔ پھر مسلمان  
دوبارہ نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو شہر پناہ کا دوسرا حصہ بھی گر جائے گا  
اور تیسرا مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرنے سے اتنی کشادگی ہو جائے گی کہ  
سارے مسلمان شہر میں داخل ہو (کراس پر قابض ہو) جائیں گے  
اور مال غیمت حاصل کر کے ابھی اسے تقسیم کر ہی رہے ہوں گے  
کہ ایک آدمی صحیح کر کے گا کہ وجال نکل آیا۔ مسلمان یہ خبر سن کر  
سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس چلے جائیں گے۔“

### فائدہ:

اس حدیث میں اولاً تو یہ بات ملحوظ رہے کہ بناۓ بنو اسحاق کے ستر ہزار افراد کا  
ذکر ہے اور بعض روایات میں بناۓ اسماعیل کے ستر ہزار افراد کا ذکر ہے اور بقول علامہ ابن  
حجر یتمی کی<sup>2</sup> کے بناۓ اسماعیل ہی راجح ہے۔ (ملاحظہ ہوا القول المختصر ص ۲۸)

ثانیاً یہ کہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ قسطنطینیہ کا ہے جو حضرت  
امام مہدیؑ کے زمانے میں فتح ہو گا لہذا اس روایت سے بھی ظہور مہدیؑ کا ثبوت ملتا ہے۔  
مولانا بدر عالم اس موقع پر فرماتے ہیں:

”دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ قسطنطینیہ کا ہے۔“

یہاں نعرہ تکمیر سے شہر کے فتح ہو جانے پر تجرب کرنے والے مسلمان ذرا غور و فکر کے ساتھ ایک بار اپنی گذشتہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان کو معلوم ہو گا کہ مسلمانوں کی فتوحات کی تاریخ اس قسم کے عجائبات سے معمور ہے اور حق یہ ہے کہ اگر اس قسم کی غیبی امدادیں ان کے ساتھ نہ ہوتیں تو اس زمانے میں جبکہ نہ دخانی جہاز تھے، نہ فضائی طیارے اور نہ موڑ۔ پھر ربع سکون میں اسلام کو پھیلا دینا یہ کیسے ممکن تھا آج جب کہ مادی طاقتون نے سیرو سیاحت کا مسئلہ بالکل آسان کر دیا ہے جس حصہ زمین میں ہم پہنچتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا۔ علاء بن حضرمی صحابی اور ابو مسلم خواریؓ کامیح اپنی فوج کے سند در کو خشکی کی طرح عبور کر جانا تاریخ کا واقعہ ہے۔ خالد بن ولیدؓ کے سامنے مقام حیرہ میں زہر کا پیالہ پیش ہونا اور ان کا اسم اللہ کہہ کر نوش کر لینا اور اس کا نقصان نہ کرنا بھی تاریخ کی ایک حقیقت ہے، سفینہ (آپ ﷺ کے غلام کا نام ہے) کا روم میں ایک جگہ گم ہو جانا اور ایک شیر کا گردن جھکا کر ان کو شکر تک پہنچانا اور حضرت عمرؓ کا مدینہ میں منبر پر اپنے جزل ساریہ کو آواز دینا اور مقام نہادنڈ میں ان کا سن لینا اور حضرت عمرؓ کے خط سے دریائے نیل کا جاری ہونا یہ تمام تاریخ کے مستند حقائق ہیں۔“

”ان واقعات کے سوا جو بسلسلہ سند ثابت ہیں ہندوستان کے بہت سے عجیب واقعات ایسے بھی ثابت ہیں جن میں سے کئی ایک کی شہادت تو انگریزوں کی زبان سے ثابت ہے۔“

(ترجمان النبی: ج ۳ ص ۳۹۳)

(۹) خانہ کعبہ پر حملہ کیلئے سفیانی کی طرف سے بھیجے جانے والے لشکر اور اس کے زیریں میں دھنسنے کا واقعہ بخاری شریف میں بھی حدیث نمبر ۲۱۱۸ پر موجود ہے، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اس واقعے سے بھی اشارہ امام مہدیؑ کا ثبوت بخاری میں ہی مل جاتا ہے۔

## ﴿روایات صحابہ در بارہ مہدی رضوان اللہ علیہ﴾

امام مہدیؑ سے متعلق صحیحین کی روایات آپ ملاحظہ فرمائے جسے اب ان صحابہؓ و صحابیاتؓ کی روایات نقل کی جاتی ہیں جو امام مہدیؑ سے متعلق روایات کے ناقل ہیں اور ان کے اسماء گرامی آپ باب اول میں پڑھ آئئے ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں ناموں کی اسی ترتیب سے باضافہ عنوانات روایات مع ترجمہ کے نقل کرنا مقصود ہے، تشریفات گذشتہ ابواب میں گزر چکی ہیں۔ امید ہے کہ اس سے قارئین فائدہ جدیدہ حاصل کریں گے اور اکتاہٹ محسوس نہ کریں گے۔

### (۱) ﴿حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

خزانۃ بیت اللہ کو تقسیم کرنے والے:

﴿عن عمر بن الخطاب انه ولح البيت وقال والله ما ادرى ادع خزانة البيت وما فيه من السلاح والاموال او قسمه في سبيل الله؟ فقال له علي بن ابي طالب امض يا امير المؤمنين فلست بصاحبہ انما صاحبہ من اصحاب من قريش يقسمه في سبيل الله في آخر الزمان﴾

(کتاب البرہان: ج ۲ ص ۵۵۲)

”ایک مرتبہ حضرت عمرؓ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم! مجھے کبھی نہیں آرہا کہ میں بیت اللہ کے خزانے، اس کے اسلحہ اور مال و دولت کو چھوڑے رکھوں یا راہِ خدا میں تقسیم کروں؟ تو حضرت علیؓ نے فرمایا اے امیر المؤمنین! اس کو چھوڑ دیجئے کہ آپ اس کو تقسیم کرنے والے نہیں بلکہ اس کو تقسیم کرنے والا قریش میں سے ہم میں کا ایک نوجوان آخر زمانے میں ہو گا جو اس کو تقسیم کرے گا۔“

محدثین کرام نے اس حدیث کا مصدق امام مهدیؑ کو قرار دیا ہے۔ نیز یہ کہ اگر امام مهدیؑ کا ظہور برحق نہ ہوتا تو حضرت عمرؓ حضرت علیؑ کی اس بات کا انکار کر دیتے۔ لیکن ان کا انکار منقول نہیں، معلوم ہوا کہ امام مهدیؑ کا ظہور برحق ہے۔

### (۲) ﴿حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

امام مهدیؑ، اولاد عباسؓ میں سے؟

﴿عن عثمان بن عفان قال سمعت النبي ﷺ يقول

المهدي من ولد العباس عمى﴾ (کتاب البران: ج ۲ ص ۵۹)

”حضرت عثمان غنیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مهدی، میرے پچھا عباس کی اولاد میں سے ہوں گے۔“

اس حدیث پر بظاہر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ امام مهدیؑ تو حضرت فاطمہؓ کی اولاد میں سے ہوں گے اور اس روایت میں حضرت عباسؓ کی اولاد میں سے ہونے کا تذکرہ ہے؟ اس کا جواب اسی رسالے کے باب دوم میں گزر چکا ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائیں:

### (۳) ﴿حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

خلافت کے لیے امام مهدیؑ کو تیار کرنا:

﴿عن علی قال رسول الله ﷺ المهدی منكم اهل

البيت يصلحه الله في ليلة﴾ (مسند ابی یعلی الموصی: ج ۱ ص ۲۵۹)

”حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مهدی تم (میرے) اہل بیت میں سے ہو گا جس کی اصلاح اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں کر دیں گے۔“

## (۲) حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت ﴿

ظهور مہدیؑ سے قبل کے واقعات:

﴿روى من حديث معاوية بن أبي سفيان في حديث فيه طول عن النبي ﷺ قال ستفتح بعدي جزيرة تسمى بالأندلس فتغلب عليهم أهل الكفر فيها خذون من اموالهم وأكثر بلدتهم ويسبون نساءهم وأولادهم ويهتكون الاستار ويخربون الديار ويرجع أكثر البلد فيافي وقفاراً وتنجلى أكثر الناس عن ديارهم واموالهم فيما خذون أكثر الجزيرة ولا يبقى إلا أقلها ويكون في المغرب الهرج والخوف ويستولى عليهم الجوع والغلاء وتكثر الفتنة ويأكل الناس بعضهم بعضاً فعند ذلك يخرج رجل من المغرب الأقصى من أهل فاطمة بنت رسول الله ﷺ وهو المهدى القائم في آخر الزمان وهو أول اشراط الساعة﴾ (الذكرة للقرطبي: ص ۷۰۳)

”حضرت امیر معاویہؓ کی ایک طویل حدیث میں مردی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا عقریب میرے بعد اندرس نامی جزیرہ فتح ہو گا اور اس پر کفار غالب آ کر ان کے اموال اور اکثر شہروں پر قبضہ کر لیں گے، ان کی عورتوں اور اولاد کو قید کر لیں گے۔ ان کی عصمت دری کریں گے، شہروں کو اس طرح ویران کر دیں گے کہ اکثر شہر جنگلوں کی مانند ہو جائیں گے، اکثر لوگ اپنے شہر اور مال و دولت کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور تھوڑے سے حصہ کے علاوہ پورے جزیرے پر ان کا قبضہ ہو جائے گا اور مغرب میں قتل اور خوف وہر اس کھیل

جائے گا۔ لوگوں پر بھوک اور مہنگائی غالب آجائے گی، فتنے زیادہ ہو جائیں گے، لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے درپے ہوں گے، اس وقت مغربِ اقصیٰ سے حضرت فاطمہؓ کی اولاد میں سے مہدی نامی شخص کا ظہور ہو گا جو آخری زمانے میں ہو گا اور اس کا آنا علامات قیامت میں سے پہلے علامت ہے۔“

(۵) ﴿حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت﴾

جهادِ مہدیٰ سنت کی روشنی میں ہو گا:

﴿عن عائشة عن النبي ﷺ قال هو رجل من عترتي فيقاتل على سنتي كما قاتلت أنا على وحي﴾

(کتاب الفتن: ص ۲۶۳)

”حضرت عائشہؓ سے مردی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا مہدیٰ میری اولاد میں سے ایک آدمی ہو گا جو میری سنت کی روشنی میں جہاد کرے گا جیسے میں نے وحی کی روشنی میں جہاد کیا ہے۔“

(۶) ﴿حضرت حفصة رضی اللہ عنہا کی روایت﴾

مقام بیداء میں لشکر کا حضور جانا:

﴿عن حفصة رضي الله عنها أنها سمعت النبي ﷺ يقول ليؤمن من هذا البيت جيش يغزو نه حتى اذا كانوا بيداء من الأرض يخسف باوطفهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى الا شريد الذي بخبر عنهم﴾ (مسلم شریف: ۲۳۲)

”حضرت حفصةؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کو میں نے یہ فرماتے

ہوئے سن کہ ایک لشکر اس بیت اللہ کا ضرور قصد کرے گا یہاں تک کہ جب وہ بیداء نامی جگہ پہنچے گا تو درمیان والا حصہ زمین میں ڈھنس جائے گا، یہ دیکھ کر لشکر کے اگلے لوگ پچھلوں کو آواز دیں گے لیکن ان کو بھی دھنسا دیا جائے گا اور سوائے مجرم کے کوئی بھی نہ بچے گا۔“ (بعض روایات میں دو آدمیوں کے بچنے کا تذکرہ ہے جن کا نام دبرا اور دیر ہوگا۔) (کتاب الحسن: ص ۲۲۸)

#### (۷) ﴿حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی روایت﴾

نیتوں پر لوگوں کو اٹھایا جائے گا:

﴿عَنْ صَفِيَّةِ امِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَهِ النَّاسُ عَنْ غَزْوَةِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّىٰ يَغْزُو جَيْشًا حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِيَدَاءِ مِنَ الْأَرْضِ خَسْفَ بِأَوْلَاهُمْ وَآخِرَهُمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسِطُهُمْ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَنْ كَرِهَ مِنْهُمْ؟ قَالَ يَعْثِمُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي أَنفُسِهِمْ﴾ (رواہ احمد و ابو داؤد)

”ام المؤمنین حضرت صفیہؓ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بیت اللہ پر لوگ ہمیشہ لشکر کشی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ایک لشکر بیت اللہ پر حملہ کی نیت سے روانہ ہو کر جب مقام بیداء میں پہنچے گا تو سارا لشکر زمین میں ڈھنس جائے گا۔ اور کوئی بھی نہ بچے گا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر اس لشکر میں بعض لوگوں کو زبردستی شامل کر لیا گیا ہو (تو ان کا کیا حکم ہے؟) فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نیتوں پر اٹھائیں گے۔“

## (۸) ﴿حضرت ام حبیبة رضی اللہ عنہا کی روایت﴾

ایک مشرقی لشکر کا حملہ:

﴿عَنْ أُمِّ حَبِيبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ يَخْرُجُ نَاسٌ مِّنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ يَرِيدُونَ رِجْلَ عَنْ دَبِيْتٍ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءِ مِنَ الْأَرْضِ يَخْسِفُ بِهِمْ﴾  
 (لکاب البرہان: ج ۲ ص ۲۳۲)

حضرت ام حبیبةؓ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے تاکہ مشرق سے کچھ لوگ بیت اللہ میں موجود ایک آدمی (مہدیؑ کو شہید کرنے) کے ارادے سے نکلیں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ مقام بیداء میں پہنچیں گے تو زمین میں دھنادیے جائیں گے۔“

## (۹) ﴿حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت﴾

امام مہدیؑ کی اجمالی سوانح حیات:

﴿عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيَخْرُجُونَ وَهُوَ كَارِهٌ فَيَأْتِيَهُ يَعْوِنَهُ بَيْنَ الرَّكْنَيْنِ وَالْمَقَامِ وَيَبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثًا مِّنَ الشَّامِ فَيَخْسِفُ بِهِمْ بَالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ اتَّاهَ ابْدَالَ الشَّامِ وَعَصَابَ أَهْلِ الْعَرَاقِ فَيَأْتِيَهُ يَعْوِنَهُ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِّنْ قَرِيْشَ اخْوَالَهُ كَلْبٌ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيُظْهِرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثَ كَلْبٍ وَالْخَيْةِ لَمْ يَشْهُدْ غَيْرَهُ كَلْبٌ فَيَقْسِمُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ

بُسْنَة نَبِيِّهِ ﷺ وَيَلْقَى الْإِسْلَامَ بِجَرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ  
يَلْبِثُ سَبْعَ سَنِينَ ثُمَّ يَتَوَفَّ فِي وَيَصْلِي عَلَيْهِ  
الْمُسْلِمُونَ، أَخْرَجَهُ أَبْنَى شِيَّةٍ وَاحْمَدٌ وَابْدَاوِدُ وَابْرُو  
يَعْلَى وَالْطَّبْرَانِيَّ (الحاوی للخواوی: ج ۲ ص ۱۷، ابو داؤد: ۳۸۸۶)

”حضرت ام سلمہ“ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا  
عنقریب ایک خلیفہ کی موت کے وقت نئے خلیفہ کے انتخاب میں  
لوگوں کا اختلاف ہو گا، مدینہ والوں میں سے ایک آدمی بھاگ کر  
مکہ آجائے گا، کچھ اہل مکہ ان کے پاس آ کر زبردستی ان سے مجر  
اسودا اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے پھر ان کے  
 مقابلے کے لیے شام سے ایک لشکر روانہ ہو گا جو مکہ اور مدینہ کے  
مابین مقام بیداء میں ڈھنس جائے گا، لوگ جب اس کرامت کو  
دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور اہل عراق کے عصاب اب ان کے  
پاس آ کر ان سے بیعت کریں گے۔“

پھر قریش کا ایک آدمی جس کے نھیاں والے بنو کلب ہوں گے، ان  
سے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیج گا تو یہ لوگ اس پر غالب آ جائیں  
گے، اس کو ”لشکر کلب“ کہتے ہیں اور وہ شخص بڑا محروم ہے جو بنو کلب  
سے حاصل شدہ مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر موجود نہ ہو۔ پس امام  
مہدیؑ مال غنیمت تقسیم کریں گے اور لوگوں کے معاملات میں سنت  
نبوی کے پیرو ہوں گے، ان کے زمانے میں اسلام اپنی گردن زمین پر  
ڈال دے گا (اسلام کو احکام نصیب ہو گا) وہ سات سال تک اسی حال  
میں رہیں گے پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان ان کی نماز  
جنازہ کی ادا یا گلی (کر کے ان کی تدفین) کریں گے۔“

(۱۰) ﴿حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

امام مہدیؑ کی حکومت:

﴿عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال لا تذهب الدنيا

حتی يملک العرب رجل من اهل بيته يواطئ اسمه

اسمی. رواه احمد و ابو داؤد والترمذی وقال هذا حديث

حسن صحيح﴾ (ترمذی: ج ۲ ص ۳۶، الحاوی للبغدادی: ج ۲ ص ۷۰)

”حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہو گی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی، جس کا نام میرے نام کے موافق ہو گا، سر زمین عرب کا مالک نہ ہو جائے۔“

(۱۱) ﴿حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت﴾

امام مہدیؑ کے اعوان و انصار:

﴿روى ابن مردويه عن ابن عباس ضى الله عنهم ما مرفوعا

قال اصحاب الكهف اعون المهدى﴾ (الاشاعر: ص ۲۲۲)

”ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ اصحاب کھف امام مہدیؑ کے اعوان و مددگار ہوں گے۔“

(۱۲) ﴿حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

امام مہدیؑ کا حلیہ:

﴿عن ابى سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ

المهدى منى اجلى الجبهة اقنى الانف يملأ الأرض

### قسط و عدلا کما ملت ظلمما وجورا ویملک سبع

سنین ﴿ابوداؤر: ج ۲ ص ۲۳۰، و اخربه الحاکم ایضا﴾

”حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا  
مہدی مجھ سے (میری اولاد میں سے) ہوں گے، خوبصورت کشاوہ  
پیشانی اور لمبی ستواں ناک والے ہوں گے زمین کو اسی طرح عدل  
و انصاف سے بھردیں گے جیسے وہ پہلے ظلم و تم سے بھری ہوئی ہوگی  
اور سات سال حکومت کریں گے۔“

### (۱۳) ﴿حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

دریائے فرات سے سونے کے ستون کا نکلنا:

﴿عن ابی هریرة قال قال رسول الله يوشك الفرات ان  
يحصر عن کنز من ذهب فمن حضر فلا يأخذ منه  
 شيئا﴾ متفق عليه۔ (سلفۃ المصانع: ص ۳۶۹)

”حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا عنقریب  
دریائے فرات کا پانی خشک ہو کر اس میں سے سونے کا ایک خزانہ  
ظاہر ہو گا تو (تم میں سے) جو اس موقع پر حاضر ہو، وہ اس میں سے  
کچھ نہ لے۔“ (کتاب الحقن: ص ۲۳۳ پر کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہی  
روایت حضرت ابوہریرہؓ سے مروی موجود ہے۔)

### (۱۴) ﴿حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

امام مہدیؑ کی بیعت کرنے کی تاکید:

﴿عن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ تطلع الرايات  
السود من قبل المشرق فيقاتلونكم قتالا شديدا لم

یقاتلہ قوم مثلہ فاذا رایتموہ فبایعوہ ولو حبوا علی الثلوج  
فانه خلیفة اللہ المهدی ﷺ (الاشاعت: ص ۲۲۰)

”حضرت ثوبانؓ سے مردی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا (تیامت کے قریب) مشرق کے رخ سے سیاہ جھنڈے ظاہر ہوں گے اور وہ تم سے ایسی سخت جنگ کریں گے کہ اس جیسی جنگ کسی قوم نے نہ لڑی ہوگی۔ پس جب تم اس کو دیکھ لوتو (اس کے قائد سے) بیعت کرو اگرچہ تمہیں (بیعت کے لیے) برف پر چل کر آنا پڑے کیونکہ اس میں اللہ کا خلیفہ مهدی ہوگا۔“

(۱۵) **حضرت عبد اللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کی روایت ﷺ**

قیام خلافت مهدیؑ کے معاونین:

عن عبد اللہ بن الحارث بن جزء الزبیدی قال قال رسول اللہ ﷺ يخرج ناس من المشرق فیوطّنون للمهدی يعني سلطانہ۔ اخرجه ابن ماجہ والطبرانی (ابن ماجہ: ۳۰۸۸)

”حضرت عبد اللہ بن حارثؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے جو امام مهدیؑ کے لیے (مسئلہ) خلافت کو آسان کر دیں گے۔“

(۱۶) **حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ﷺ**

سردار ان اہل جنت:

عن انس قال سمعت رسول اللہ ﷺ يقول نحن ولد عبد المطلب سادة اهل الجنة انا و حمزة و علی و جعفر والحسن والحسین والمهدی۔ اخرجه ابن ماجہ و ابو

نعیم (ابن ماجہ: ۳۰۸)

”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عبدالمطلب کی اولاد میں ہم (سات لوگ) اہل جنت کے سردار ہوں گے، میں خود (حضور ﷺ) حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی، رضی اللہ عنہم۔“

### (۱۷) ﴿حضرت چابر رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

امام مہدیؓ کی دادوہش:

﴿عن جابر قال قال رسول الله ﷺ يكون في آخر امتى خليفة يحشى المال حتيا ولا يعده عدا﴾ اخرجه احمد و مسلم (مسلم شریف: ۷۳۱۵)

”حضرت چابرؓ سے مردی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہو گا جو لوگوں کو لپ بھر کر بغیر شمار کیے مال و دولت سے نوازے گا۔“

فائدہ:

علامہ سیوطیؒ نے اس روایت کو مرفوعاً نقل کیا ہے جبکہ مصنف عبدالرزاق ج ۱ ص ۳۷۲ پر حضرت چابرؓ کی اسی روایت کو موقوفاً نقل کیا گیا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ روایت مرفوع ہی ہے جیسا کہ صحیح مسلم اور مسند احمد میں ہے۔

### (۱۸) ﴿حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

خزانہ بیت المقدس اور امام مہدیؓ:

﴿قال حذيفه رضي الله عنه فسمعت رسول الله ﷺ﴾

یقول لیستخرجن المهدی ذلک حتی یرده الی بیت  
المقدس ﷺ (الاشاعر: ص ۲۲۳)

”حضرت حذیفہ“ (خزانہ بیت المقدس کی ایک طویل روایت ذکر کرتے ہوئے) فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”مهدی“ اس خزانے کو ضرور نکلا میں گے تا آنکہ اسے بیت المقدس لوٹادیں گے۔“

(۱۹) ﴿حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

امام الناس المهدیؐ:

﴿عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ ﷺ سیکون بینکم و بین الرؤوم اربع هدن، یوم الرابع علی ید رجل من اهل هرقل یدوم سبع سنین فقال له رجل یا رسول اللہ! من امام الناس یومئذ؟ قال المهدی من ولدی ابن اربعین سنة کان وجه کوکب دری فی خده الا یمن خال اسود عليه عباء تان قطوانیتان کانه من رجال بنی اسرائیل یستخرج الکنوز و یفتح مدائن الشرک﴾ (کتاب البرہان: ج ص ۵۸۲)

”حضرت ابو امامہ“ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا عنقریب تمہارے اور رومیوں کے درمیان چار مرتبہ صلح ہو گی، چوتھی مرتبہ جو صلح ہو گی وہ ہرقل کے خاندان والوں میں سے ایک آدمی کے ساتھ ہو گی جو سات سال تک رہے گی، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان دونوں لوگوں کا امام (خلیفہ) کون ہو گا؟ فرمایا میری اولاد میں سے مهدی نامی ایک شخص (لوگوں کا خلیفہ) ہو گا جس کی عمر ۲۰ سال ہو گی،

چمکدار ستارہ کی طرح روشن چہرہ ہوگا، دامیں رخسار پر سیاہ تل ہوگا، دو سفید عبا میں زیب تن کیے ہوں گے (اور جسم میں) بنی اسرائیل کے ایک آدمی معلوم ہوں گے، زمین کے خزانوں کو نکال لیں گے اور شرک کے (اڑوں اور) شہروں کو فتح کر لیں گے۔“

(۲۰) ﴿حضرت عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ عنہما کی روایت﴾

منی میں خون ریزی:

﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٍ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ يَحْجُّ النَّاسُ مَعَاوِيَرُفُونَ مَعًا عَلَىٰ غَيْرِ أَهْمَافِينَمَا هُمْ نَزُولُ بِمَنِي إِذَا أَخْلَنَهُمْ كَالْكَلْبِ فَتَارَتِ الْقَبَائِلُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَاقْتَلُوا حَتَّىٰ تَسْيِلَ الْعَقْبَةَ دَمًا فَيَفِرُّ عَوْنَ إِلَى خَيْرِهِمْ فِيَاتُونَهُ وَهُوَ مُلْصَقٌ وَجْهُهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَكْسِي كَانِيَ اَنْظَرَ إِلَى دَمْوَعِهِ فَيَقُولُونَ هَلْمٌ فَلَنْ يَأْكُ فَيَقُولُ وَيَحْكُمُ كَمْ مِنْ عَهْدٍ نَقْضَتِمُوهُ وَكَمْ مِنْ دَمٍ قَدْ سَفَكْتُمُوهُ فَيَأْبِعُوكَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ الْمَهْدَى فِي الْأَرْضِ وَالْمَهْدَى فِي السَّمَاءِ﴾ (کتاب الحج: ص: ۲۲۸)

”حضرت عبد اللہ بن عمرؑ فرماتے ہیں کہ (قیامت کے قریب ایک مرتبہ) لوگ حج کے لیے (مکہ مکرمہ) آئیں گے اور میدان عرفات میں جمع ہوں گے لیکن ان کا کوئی امام نہیں ہوگا پھر جب وہ (اگلے دن) منی میں پڑاؤ کریں گے تو (اچاک دشمنی کی ایسی آگ بھڑکے گی کہ) قبائل ایک دوسرے پر کتوں کی طرح حملہ کر دیں گے اور خوب لڑیں گے حتیٰ کہ جمرہ عقبہ خون میں بہہ جائے گا (بھر جائے گا) اس وقت لوگ گھبرا کر کسی بہترین آدمی کو تلاش کریں گے (تاکہ اس کو امام بنائیں اور یہ قیمت دو رہو) چنانچہ وہ ان کو اس حال میں جائیں گے

کہ وہ بیت اللہ کے ساتھ اپنے چہرے کو چمٹا کر رور ہے ہوں گے۔  
 حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں گویا میں ان کے آنسوؤں کو ابھی دیکھ رہا  
 ہوں، لوگ ان سے کہیں گے کہ آئیے! ہم آپ کی بیعت کریں، وہ  
 کہیں گے کہ ہائے افسوس! کس قدر وعدوں کو توڑ کر اور کس قدر  
 خوزیری کر کے تم میرے پاس آئے ہو؟ اور مجبور ہو کر لوگوں سے  
 بیعت لیں گے، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان سے بیعت کر لینا کیونکہ وہ  
 زمین و آسمان میں مهدی (ہدایت یافتہ) ہیں۔“

(۲۱) ﴿حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی روایت﴾

نفس زکیہ کا قتل:

﴿عن عمار بن یاسر قال اذا قتل النفس الزكية و اخوه  
 يقتل بمكة ضيعة نادى مناد من السماء ان اميركم فلان  
 و ذلك المهدى الذى يملأ الارض خصبا و عدلا﴾  
 اخرجه نعیم بن حماد (الحاوی: ج ۲ ص ۹۱، کتاب البرہان: ج ۲ ص ۵۲۱)  
 ”حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ جب نفس زکیہ اور ان کا  
 بھائی مکرمہ میں ناجق شہید کر دیئے جائیں گے تو آسمان سے  
 ایک منادی پکارتے گا کہ اے لوگو! تمہارا امیر فلاں آدمی ہے جس کا  
 نام مهدی ہے وہ زمین کوشادابی اور عدل سے بھردے گا۔“

(۲۲) ﴿حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

پوری دنیا کے حکمران:

﴿عن عباس قال قال رسول الله ﷺ ملک الارض اربعة  
 مؤمنان و كافران، فالمؤمنان ذو القرنين و سليمان،

والكافران نمروذ و بخت نصر وسيملکھا خامس من اهل  
بیتی ﴿ اخر جه ابن الجوزی فی تاریخه . (الحاوی ج ۲ ص ۹۷)

”حضرت عباسؑ سے مردی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا پوری دنیا  
پر حکمرانی کرنے والے چار آدمی گزرے ہیں جن میں سے دو مومن  
تھے اور دو کافر۔ مومن تو ذوالقرینین اور حضرت سلیمانؑ ہیں اور کافر  
نمروذ اور بخت نصر ہیں، عنقریب ایک پانچواں شخص میری اولاد میں  
سے اس کا مالک ہو جائے گا۔“ (جس کا نام مہدی ہو گا)

**فائدہ نمبر ۱:**

علامہ سیوطیؒ نے اپنی کتاب الحاوی للغتاوی ج ۲ ص ۹۷ پر یہ روایت ابن  
جوزی کی تاریخ کے حوالے سے حضرت عباسؑ سے روایت کی ہے جبکہ یہی روایت شیخ علی  
مقیؒ نے کتاب البرہان ج ۲ ص ۵۵۹ پر بعینہ انہی الفاظ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن  
عباسؑ سے نقل کی ہے۔ *وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ*۔

**فائدہ نمبر ۲:**

نمروذ۔ اصل میں تو یہ لفظ نمروذ ہی ہے۔ لیکن اردو میں اس کو فقط دال کے  
ساتھ نمروذ بولا جاتا ہے۔ جبکہ عربی میں اس کا استعمال دونوں طرح سے ہوتا ہے البتہ نمروذ  
(ذال کے ساتھ) زیادہ صحیح ہے۔

**(۲۳) ﴿ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ﴾**

**فرشتہ کی پکار:**

﴿ عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ يخرج  
المهدى و على راسه ملک ينادى ان هذا المهدى  
فاتبعوه ﴾ اخر جه ابو نعیم والخطیب فی تلخیص

المتشابه۔ (الخادی: ج ۲ ص ۳۷، کتاب البرہان: ج ۲ ص ۵۱۲)

”حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا امام مهدیؑ اس حال میں ظہور کریں گے کہ ان کے سر پر ایک فرشتہ ہو گا جو یہ نداء کرتا ہو گا کہ (اے لوگو!) یہ مهدی ہیں اس لیے ان کی اتباع کرو۔“

(۲۲) ﴿حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

امام مهدیؑ کی صورت و سیرت:

﴿عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُعْنِنَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عَتْرَتِي رِجَالًا فِرْقَ الشَّاهِيَا أَجْلِيَ الْجِهَةَ يَمْلأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَيَفْيِضُ الْمَالَ فِي ضَاءٍ﴾ اخرجه

ابو نعیم (الخادی: ج ۲ ص ۶۷، کتاب البرہان: ج ۲ ص ۵۳۶)

”حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے خاندان میں سے ایک آدمی کو ضرور بھیجن گے جس کے سامنے کے دونوں دانت انتہائی کشادہ اور پیشانی روشن ہو گی، وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا اور لوگوں کو خوب مال دے گا۔ (پانی کی طرح بھائے گا۔)“

(۲۵) ﴿حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

علامات ظہور مهدیؑ:

﴿عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَامِتٍ قَالَ قَلْتُ لِابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسِينِ بْنِ عَلَى رِضَى اللَّهِ عَنْهُمَا أَمَّا مِنْ عَلَامَاتٍ بَيْنَ يَدِي هَذَا الْأَمْرِ يَعْنِي ظَهُورَ الْمَهْدِيِّ؟ فَقَالَ بَلِي، قَلْتُ وَمَا هِيَ؟ قَالَ هَلَّاكَ بْنِ الْعَبَّاسَ وَخَرَوْجَ السَّفِيَّانِيِّ وَالْحَسْفَ بِالْبَيْلَادِ قَلْتُ جَعَلْتَ

فداک اخاف ان يطول هذا الامر قال انما هو كنظام الخرز

يتبع بعضه بعضاً (كتاب البرهان: ج ۲ ص ۲۵۲)

”محمد بن صامت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسینؑ سے پوچھا کیا  
اس امر عظیم یعنی ظہور مہدی سے قبل کچھ علامات بھی رونما ہوں گی؟  
فرمایا ہاں! کیوں نہیں، میں نے پوچھا کہ وہ کیا علامات ہیں؟ فرمایا بنو  
عباس کی ہلاکت، سفیانی کا خروج اور مقام بیداء میں ایک لشکر کا زیست  
میں ڈھنس جانا، میں نے کہا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، مجھے تو یہ  
اندیشہ ہے کہ یہ معاملہ طویل عرصے کے بعد وقوع پذیر ہو گا۔ فرمایا کہ  
یہ موتی کی لڑی کی طرح ہو گا کہ ایک کے پیچھے دوسرا آ جاتا ہے۔  
(لڑی ٹوٹنے کے بعد جب ایک دانہ گرتا ہے تو دوسرا بھی فوراً گر جاتا  
ہے اسی طرح یہ واقعات بھی یکے بعد دیگرے پیش آ جائیں گے۔“

(حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی روایت)

فتول کی آگ:

﴿عَنْ طَلْحَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَكُونُ فَتْنَةٌ لَا يَهْدِي مِنْهَا جَانِبُ الْأَجَاصِ مِنْهَا جَانِبٌ حَتَّى يَنَادِي مَنَادٌ مِنَ السَّمَاوَاتِ أَنَّ امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَمْ فَلَانٌ﴾ (اخرو جده الطبراني)

(الحاوی: ج ۲ ص ۳۷، کتاب البرهان: ج ۲۰ ص ۵۱۰)

”حضرت طلحہؓ سے مردی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا عنقریب ایک  
ایسا فتنہ بھڑک کے گا کہ ایک جانب سے ختم نہ ہونے پائے گا کہ دوسرا  
جانب بھڑک اٹھے گا اور یہ فتنہ برابر جاری رہے گا یہاں تک کہ  
آسمان سے ایک منادی آواز دے گا کہ تمہارا امیر فلاں آدمی ہے۔“

(۲۷) ﴿حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

ظہور مهدی کی ایک علامت:

﴿عن عمرو بن العاص قال علامة خروج المهدی اذا

خسف جیش فی البداء فهو علامة خروج المهدی﴾

آخر جه نعیم (المادی: ج ۲ ص ۸۱، کتاب البرہان: ج ۲۰ ص ۲۶۷)

”حضرت عمرو بن العاص نے خروج مهدی کی علامت مقام بیداء میں ایک لشکر کا زمین میں دھنس جانا بیان کی ہے۔“

(۲۸) ﴿حضرت عمرو بن مرہ رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

خراسان سے سیاہ جھنڈوں کا آنا:

﴿قال عبد الرحمن الجرجشی سمعت عمرو بن مرہ

الجملی صاحب رسول الله ﷺ يقول لتخرج من

خراسان رایۃ سوداء حتى تربط خيولها بهذا

الزيتون الذي بين بيت لهيا و حرستا، قلت مابين هاتين

زيتونة قال سينصب بينهما زيتون حتى ينزلها اهل

تلك الرایۃ فتربط خيولها بها.﴾ (کتاب الحسن: ص ۲۱۵)

”عبد الرحمن الجرجشی کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت عمرو

بن مرہ الجملیؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خراسان سے سیاہ جھنڈا

ضرور نکلے گا یہاں تک کہ (اس جھنڈے کے ماتحت لشکر کے لوگ)

بیت لهیا اور حرستا کے درمیان زیتون کے درخت پر اپنے گھوڑوں کو

باندھیں گے، ہم نے پوچھا کہ کیا ان دونوں کے درمیان زیتون کا

کوئی درخت ہے؟ فرمایا کہ اگر نہیں ہے تو عنقریب لگ جائے گا

تا آنکہ کہ وہ لوگ یہاں آ کر اپنے گھوڑے باندھ لیں۔“

(۲۹) ﴿حضرت ابوالطفیل رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

امام مهدی کا نام:

﴿عن ابی الطفیل رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ

قال المهدی اسمه اسمی واسم ابیہ اسح ابی﴾

(کتاب الفتن: ص ۲۶۰)

”حضرت ابوالطفیلؓ سے مردی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ  
مهدی کا نام میرے نام پر اور ان کے والد کا نام میرے والد کے  
نام پر ہو گا۔“

(۳۰) ﴿حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

یکے بعد دیگرے فتنوں کا ظہور:

﴿عن عوف بن مالک ان النبی ﷺ قال تجئ فتنۃ  
غیراء مظلمة ثم تتبع الفتنة بعضها حتى يخرج رجل من  
أهل بيته يقال له المهدی فان ادركته فاتبعه وكن من  
المهتدین﴾ اخر جه الطبرانی

(الحاوی: ج ۲ ص ۸۰، کتاب البرہان: ج ۲ ص ۱۱۱)

”حضرت عوف بن مالکؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا  
(عقریب) انہیں رات کی طرح چھا جانے والا ایک فتنہ پا ہو گا،  
اس کے بعد پے در پے فتنے نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے حتیٰ کہ  
میرے اہل بیت میں سے مهدی نامی ایک شخص ظاہر ہو گا، اگر تم اسے  
پاؤ تو اس کی اتباع کر کے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جانا۔“

## (۳۱) ﴿حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی روایت﴾

آسمان سے ایک ہاتھ کا ظہور:

﴿عَنْ الزَّهْرِيِّ قَالَ إِذَا التَّقِيُّ السَّفِيَانِيُّ وَالْمَهْدِيُّ لِلقتالِ  
يُوْمَئِذٍ يَسْمَعُ صَوْتَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا أَنَّ اولِيَاءَ اللَّهِ  
أَصْحَابَ فَلَانَ يَعْنِي الْمَهْدِيِّ. قَالَ الزَّهْرِيُّ وَقَالَتِ  
إِسْمَاءُ بْنَتُ عَمِيْسٍ أَنَّ امَارَةَ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَنْ كَفَامِنَ  
السَّمَاءِ مَدْلَأَةً يَنْظَرُ إِلَيْهَا النَّاسُ﴾ (کتاب الفتن: ج ۲۲۴)

”امام زہریؓ فرماتے ہیں کہ جب سفیانی اور امام مہدیؓ قال کے  
لیے آمنے سامنے ہوں گے تو اس دن آسمان سے ایک آواز سنائی  
دے گی کہ اے لوگو! خبردار! اللہ کے دوست فلاں یعنی مہدی کے  
سامنی ہیں۔ امام زہریؓ کہتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت اسماء بنت  
عمیسؓ نے فرمایا اس دن کی علامت یہ ہوگی کہ آسمان سے ایک لٹکا  
ہوا ہاتھ (ظاہر ہو گا جو) امام مہدیؓ کے لشکر کی طرف اشارہ کر رہا  
ہوں گا اور لوگ بھی اس ہاتھ کو دیکھیں گے۔“

## (۳۲) ﴿حضرت قرة المزنیؓ کی روایت﴾

امام مہدیؓ کی مدت حکومت:

﴿عَنْ قَرْةِ الْمَزْنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِتَمْلَؤُنَ  
الْأَرْضُ جُورًا وَظُلْمًا فَإِذَا مُلْتَثَتْ جُورًا وَظُلْمًا بَعْثَ اللَّهُ  
رَجُلًا مِنِّي أَسْمَهُ أَسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ أَسْمَ أَبِيهِ فِيمَلَاهَا عَدْلًا  
وَقَسْطًا كَمَا مُلْتَثَتْ جُورًا وَظُلْمًا فَلَا تَمْنَعُ السَّمَاءَ شَيْئًا  
مِنْ قَطْرَهَا وَلَا الْأَرْضَ شَيْئًا مِنْ نَبَاتَهَا يَمْكُثُ فِيهِمْ سَبْعًا

اوٹمانیا فان اکثر فتسعا ﴿ (الحاوی: ج ۲ ص ۲۷)

”حضرت قرۃ المریضؑ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا تم زمین کو ضرور ظلم و ستم سے بھر کر رہو گے، چنانچہ جب ایسا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو بھیجیں گے جس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہو گا، وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہو گی، ان کے زمانے میں آسمان اپنا تمام پانی بہادے گا اور زمین اپنی تمام باتات اگل دے گی، وہ لوگوں میں سات یا آٹھ یا زیادہ سے زیادہ نوسال رہیں گے۔“

(۳۲) ﴿ حضرت قیس بن جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ﴾

امام مہدیؑ کے بعد قحطانی خلیفہ ہو گا:

﴿ عن قیس بن جابر الصدفی ان رسول اللہ ﷺ قال  
سیکون من اهل بیتی رجل یملأ الارض عدلاً کما  
ملشت جوراً ثم من بعده القحطانی والذی نفسی بیده  
ما هو دونه ﴾ (الحاوی: ج ۱ ص ۹۵)

”حضرت قیس بن جابر الصدفی سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا غقریب میرے اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا جو زمین کو اسی طرح عدل سے بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم سے بھری ہو گی پھر ان کے بعد قحطانی ہو گا اور اس ذات کی قسم! جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ ان سے کم نہ ہو گا۔“

### (۳۴) ﴿حضرت جابر بن سمرة رضي الله عنه کی روایت﴾

بارة خلفاء والی روایت:

﴿عن جابر بن سمرة عن رسول الله ﷺ انه قال  
لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون النا عشر خليفة  
كلهم تجتمع عليه الامة﴾ (الحاوی: ج ۲ ص ۱۰۲)

”حضرت جابر بن سمرةؓ سے مردی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا یہ  
وین ہمیشہ قائم رہے گا حتیٰ کہ بازہ خلیفہ ایسے ہو جائیں جن پر پوری  
امت متفق ہوگی۔“

فائدہ:

علامہ سیوطیؒ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہوئے  
فرمایا ہے کہ اس حدیث میں امام مہدیؑ کے وجود کی طرف اشارہ ہے اور وہی بارہ ہوں  
خلیفہ ہوں گے کیونکہ گیارہ خلفاء کے بعد اب تک کوئی بارہ وال خلیفہ ایسا نہیں آیا کہ اس کی  
خلافت پر پوری امت مجتمع ہو سکی ہو۔

### (۳۵) ﴿حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضي الله عنه کی روایت﴾

دین کا مثلہ:

﴿عن ابی عبیدة بن الجراح رضي الله عنه قال قال رسول  
الله ﷺ لا يزال هذا الامر قائما بالقسط حتى يكون  
اول من يظلمه رجل من بنی امية﴾ (کتاب الحسن: ص ۱۹۰)

”حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے  
فرمایا دین کا یہ معاملہ ٹھیک چtar رہے گا یہاں تک کہ بنی امية  
میں سے ایک شخص سب سے پہلے اس کا مثلہ کرے گا۔“

یہ روایت وجود سفیانی پر ولالت کر رہی ہے اور خروج سفیانی علامت ہے ظہور مہدیؐ کی۔ گویا اس روایت سے بھی ظہور مہدیؐ کا ثبوت ملتا ہے۔

(۳۶) ﴿حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

دریائے فرات سے نکلنے والا خزانہ:

﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نُوفَلٍ قَالَ كُنْتُ واقفاً مَعَ أَبِي بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ مُخْتَلِفُونَ إِذَا عَنَاقُوهُمْ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا قَلْتُ أَجْلَى قَالَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُوشِكُ الْفَرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ لَئِنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَا خَذُونَ مِنْهُ لَيَذْهَبُنَّ إِلَيْهِ كَلَهُ قَالَ فَيَقْتَلُونَ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مَنْ كُلَّ مَائِةٍ تِسْعَةٍ وَتِسْعَوْنَ﴾ (سلم: ۷۲۶)

”عبدالله بن حارث بن نوفل کہتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب کے پاس کھڑا تھا کہ حضرت ابیؓ فرمانے لگے طلب دنیا میں لوگوں کی گردی میں ہمیشہ مختلف رہی ہیں میں نے عرض کیا جی بالکل! پھر فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب دریائے فرات میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہو گا۔ جب لوگ یہ خبر سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہوں گے، وہاں موجود لوگ یہ سوچیں گے کہ اگر ہم نے لوگوں کو اس کے لیجانے کی چھوٹ دے دی تو لوگ یہ سارا ہی لیجاں گے (اور ہمیں کچھ بھی نہ ملے گا) چنانچہ وہ اتنا قاتل کریں گے کہ ہر سو میں سے ننانوے افراد قتل ہو جائیں گے۔“

## (۳۷) ﴿حضرت ذی مخبر رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

رومیوں سے جنگ کا تذکرہ:

﴿عَنْ حَسَانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ مَا لَكُمْ مَكْحُولٌ وَابْنَ أَبِي زَكْرِيَاٰ إِلَى خَالِدٍ  
بْنِ مَعْدَانَ، وَمَلَّتْ مَعَهُمْ فَحَدَّثَنَا عَنْ جَبِيرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنِ الْهَدْنَةِ قَالَ  
قَالَ جَبِيرٌ أَنْطَلَقَ بَنَا إِلَى ذِي مَخْبَرٍ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ  
فَاتَّيْنَاهُ فَسَأَلَهُ جَبِيرٌ عَنِ الْهَدْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  
يَقُولُ سَتَصَالُهُنَّ الرُّومُ صَلَحًا آمِنًا فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عُدُواً مِنْ  
وَرَائِكُمْ فَتَتَصْرُونَ وَتَغْنِمُونَ وَتَسْلِمُونَ ثُمَّ تَرْجِعُونَ حَتَّى تَنْزَلُوا  
بِمَرْجِ ذِي تَلُولٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلَبَيْ فَيَقُولُ  
غَلْبَ الصَّلَبِ فَيَغْضُبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْقُهُ فَعَنْدَ ذَلِكَ  
تَغْدِرُ الرُّومُ وَتَجْمِعُ لِلْمُلْحَمَةِ﴾ (ابوداؤد: ۲۲۹۲)

”حسان بن عطيه کہتے ہیں کہ مکھول اور ابن ابی زکریاء، خالد بن معدان کی طرف روانہ ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا، خالد نے ہمیں حضرت جبیر بن نفیر کے حوالے سے صلح روم کے متعلق یہ حدیث سنائی کہ حضرت جبیر ایک مرتبہ مجھ سے فرمانے لگے آؤ! از راحضور ﷺ کے ایک صحابی ذی مخبر کے پاس چلتے ہیں چنانچہ ہم ان کے پاس پہنچے، جبیر نے ان سے صلح روم کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنائے کہ تم عنقریب رومیوں سے امن و امان کی صلح کرو گے۔ اور ایک دشمن کے خلاف تم اور روی جہاد کرو گے، تمہیں فتح، مال غنیمت اور سلامتی نصیب ہوگی پھر تم واپس لوٹ کر مرج ذی تلول مقام پر پڑاؤ ڈالو گے، اس موقع پر ایک عیسائی صلیب کو اونچا کر کے پکارے گا ”صلیب کی جے“ مسلمانوں میں سے ایک آدمی کو غصہ آئے گا اور وہ اس کو گرا دے گا اس موقع پر روی عہد شکنی کریں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے۔“